

عام فہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک سدابہار مبارک سلسلہ

دریں حَدِیث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسکو یاد
کیا اور اسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسروں کو پہنچا دیا۔ (ترمذی)
نیز فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر
اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ (ابن ماجہ)

زرگرانی

فَقِيهُهُ الْعَصْرِ حَضْرَتِي لَا يَنْفَعُ عَمَلُكُ ثَمَارَ صَاحِبِ حَمْرَةِ اللَّهِ
رئیس دارالافتاء، جامعہ خیر المدارس ملتان

ادارہ تائیفات اشراقیہ

چوک فوارہ متن پاکستان

(061-4540513-4519240)

سلسلہ
دلیل حدیث

عام فہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک سدابہار مبارک سلسلہ

دلیل حدیث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترتیز تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسکو یاد کیا اور اسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسروں کو پہنچا دیا۔ (ترمذی)
نیز فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ (ابن ماجہ)

از افادات:

شیخ الحدیث حضرت

مولانا محمد زکریٰ گاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

فقیر العصر حضرت میعُ لامفتی عبیداللہ تار صاحب

رئیس دارالافتاء جامعہ خیرالمدارس ملتان

ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک فولادہ نگرانی پاکستان

(061-4540513-4519240)

دریں حدیث

تاریخ اشاعت شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ

ناشر ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

طبع سلامت اقبال پریس ملتان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قارئین سے گذارش

ادراہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرمائیں فرمون فرمائیں
تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان مکتبہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور

مکتبہ سید احمد شبیر اردو بازار لاہور ادارہ الانور ندواؤن کراچی نمبر 5

مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور مکتبہ المنظور الاسلامیہ جامعہ حسینیہ علی پور

مکتبہ المنظور الاسلامیہ بلاک زین مدینہ ناؤن بنک موڑ فیصل آباد

ادارہ اشاعت الخیر - حضوری باغ روڈ - ملتان

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BLI 3NE. (U.K.)

مدد
کے
پتے

محض ناشر

اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ”درس حدیث“ کے مبارک سلسلہ کی یہ ساتوں جلد آپ کے سامنے ہے۔

فیقہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ کی زیر نگرانی شروع ہونیوالے اس مبارک کام کو اللہ پاک نے شرف قبولیت سے نوازا، اور عوام و خواص نے اس سے خوب استفادہ کیا کہ احادیث مبارکہ کی عام فہم سبق و ارشاد پہلی بار اس جدید انداز میں ترتیب دی گئی۔ یہ حضر اللہ کے فضل و کرم اور بزرگان دین کی دعاوں کا شرہ ہے۔

ہمارے اکابر میں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کانڈھلوی رحمہ اللہ کی خدمات حدیث ایسی مشہور و معروف ہوئیں کہ شیخ الحدیث کا مبارک لقب آپ کے نام سے زیادہ معروف ہوا اور عوام و خواص کی زبان پر من جانب اللہ جاری و ساری ہوا۔ آپ نے عربی میں احادیث کی ضخیم شروحتات لکھ کر اہل عرب سے داد تحسین وصول کی تو اردو زبان میں ”فضائل اعمال“ نے اہل عجم میں آپ کی محدثانہ شان نمایاں ہوئی بلاشبہ اس مبارک کتاب کا قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے اور ہزاروں افراد کی زندگیوں میں اس سے خوشگوار دینی انقلاب آچکا ہے۔ یقیناً یہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خلوص کا شرہ ہے۔

درس حدیث کی یہ جلد بھی حضرت شیخ الحدیث کے مبارک قلم سے لکھے ہوئے رسالہ ”فضائل درود شریف“ سے ترتیب دی گئی ہے۔ لیکن سابقہ ترتیب میں معمولی تبدیلی اور علمی مباحثت کے حذف کے بعد اسے مرتب کیا گیا ہے۔ تاکہ عوام الناس کے مطالعہ کا تسلیم باقی رہے اور عام فہم درس کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ فضائل درود شریف کے اس جدید انداز میں مرتب ہونے سے ان شاء اللہ اس کی افادیت دو چند ہو جائیگی کہ فضائل اعمال کے مرجع نسخوں میں یہ مبارک رسالہ نہیں ہوتا۔

کتاب ہذا کے آخر میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدظلہ کے مرتبہ چالیس درود شریف کے ان کلمات کو ملحق کر دیا گیا ہے جو خاص مصائب میں حل کیلئے مجرب چلے آتے ہیں۔ درس دینے والے حضرات اور سامعین سے گذارش ہے کہ دوران درس آنے والے درود شریف کے عربی کلمات بآواز بلند سب دھرا لیں تاکہ حصول ثواب کے ساتھ تلفظ کی درستگی بھی ہو جائے۔

اسی طرح مثنوی جامی اور قصیدہ بہاریہ کا انتخاب بھی ملحق کر دیا ہے تاکہ محبت رسالت میں اضافہ ہو کر اطاعت رسالت کی دولت نصیب ہو۔ دینی دسترخوان جلد اول کے حوالہ سے ان خوش نصیب حضرات کے چند خواب بھی ذکر کئے گئے ہیں جنہیں زیارت نبوی کا شرف حاصل ہوا۔ ان جدید اضافوں کے بعد ان شاء اللہ یہ جلد اپنے موضوع پر مستند مفصل کتاب ثابت ہو گی۔

اللہ پاک درس حدیث کے اس مبارک سلسلہ کو شرف قبولیت سے نوازیں اور دین کے اہم امور پر مستقل جلدیں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق سے نوازتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین

تفصیل

فِقِيْهُ الْعَصْرِ حَضْرَتِ مَوْلَى نَامِفْتَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ الْجَانِبِ

رئیس دارالاکافاء جامعہ خیر المدارس ملتان وگران اعلیٰ مجلس تحقیقات اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم..... اما بعد

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیش نظر اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح اپنے ذمہ لی ہے اسی طرح الفاظ قرآن کی تشریع جو ذخیرہ آحادیث کی شکل میں موجود ہے اسکی حفاظت و صیانت بھی اللہ پاک نے اس امت کے ذریعے فرمائی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں اس امت کے محدثین حضرات نے عجیب کمالات دکھائے۔ اسماء الرجال کے علم ہی کو دیکھ لجھے اس علم سے سابقہ امتیں محروم رہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ تاقیامت محفوظ اور قبل عمل تھیں اس لئے ان فرائیں کی حفاظت کیلئے محدثین نے اسماء الرجال اور اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے احادیث مبارکہ کے گرد ایک قوی حصار کا کام کیا تاکہ کوئی دین دشمن حسب منشاء ان احادیث میں کوئی تغیر و تصرف نہ کر سکے۔

عصر حاضر میں مسلمانوں کی مغلوبیت میں جہاں دیگر عوامل کا فرمایا ہے ان سب میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی بنیاد یعنی اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کے جانے کے باوجود کہ ہماری دینی و دنیاوی فلاج و ترقی اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیمات اور انہی اقدار میں ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چلا�ا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے اللہ پاک نے انہیں اخروی نجات کے علاوہ دنیا میں بھی شان و شوکت، غلبہ و نصرت سے نوازا اور پوری دنیا کے غیر مسلم ان کے خادم اور زیر دست کی حیثیت سے رہے۔

آج ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان غالب ہوں لیکن اس کے لئے جو بنیادی چیز ہے یعنی تعلیمات نبوت کی روشنی میں زندگی کے سفر کو طے کرنا۔ اسکی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کیا جائے اور جس طرح تلاوت قرآن کو اپنے معمول میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے بعض اکابر کے معمول میں تلاوت حدیث بھی شامل تھی۔

”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ اس لحاظ سے بڑی مبارک کا مستحق ہے کہ عوام کو اس بنیادی ضرورت کو عام فہم انداز میں درس حدیث کی شکل میں پیش کرنے کا سہرا اُسی کے سر ہے۔ اس سے قبل ”درس قرآن“، بھی عوام الناس میں بے حد مقبول ہو چکا ہے۔

دل سے دعا ہے کہ فرائیں نبوی کا یہ سدا بہار گلدستہ عند اللہ مقبول ہو اور ہم سب تعلیمات نبوی کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کر کے دنیا و آخرت کی سعادتوں سے اپنے دامن بھر لیں۔

فہرست عنوانات

۱۹	محمد شین کی خصوصیت	اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تم بھی درود بھیجو
۲۰	کسی کتاب میں درود شریف لکھنے کا اجر	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز
۲۰	صح شام درود شریف کا وظیفہ	لفظ صلوٰۃ کا معنی
۲۰	درود شریف پہنچانے والے فرشتے	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ اور اس کی برکات
۲۱	درود شریف پہنچانے والا مخصوص فرشتہ	ایک جاہلانہ اعتراض
۲۱	دونوں روایات میں تطہیق	ہماری طرف سے درود بھیجنے کا مقصد
۲۲	روضہ اطہر پڑھا ہوا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں	اللہ تعالیٰ کی طرف سلام کی نسبت کیوں نہیں کی گئی
۲۲	حضرت سلیمان بن سحیم اور حضرت ابراہیم بن شیباعؓ کے واقعات	عبرتاک واقعہ
۲۲	روضہ اطہر پر حاضر ہو کر درود پڑھنے کی فضیلت	منتخب بندوں پر سلام
۲۳	انبیائے کرام علیہم السلام کی حیاتِ برزخی	ایک درود کے بدله دس درود
۲۳	روضہ اطہر پڑھا ہوا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں	مختلف روایات کا مطلب
۲۴	مدینہ منورہ میں حاضری کا ادب	ایک دفعہ درود بھیجنے پر انعامات خداوندی
۲۴	صلوٰۃ وسلام	حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قصہ
۲۵	درود وسلام دونوں پڑھنا بہتر ہے	حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والی روایت
۲۶	روضہ اطہر کے قریب مانگنے کی دعاء	ایک اشکال کا جواب
۲۷	جو آدمی سارا وقت درود شریف میں صرف کرے اسکے سارے کاموں میں کفایت کی جاتی ہے	شانِ رسالت پناہ میں ایک گستاخی پر دس لغتیں نازل ہوتی ہیں
۲۷	تمام کاموں میں کفایت کا راز	قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب والا شخص
۲۸	شیخ عبدالوہاب متفقؓ کی شیخ عبدالحقؓ کو فیضت	درود شریف پر عالم آخرت میں ملنے والے انعامات
۲۸	ایک اشکال اور اس کا ازالہ	کی دیگر روایات
		کثرت درود کی کم از کم مقدار

۳۰	جمعہ کے دن درود کی فضیلت کی وجہ	۲۸	چوتھائی رات گذر نے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء
۳۱	اُسی سال کے گناہ معاف	۲۹	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
۳۲	درود شریف نامقبول نہیں ہوتا	۲۹	سفرارش یا گواہی
۳۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کرنیوالا درود شریف	۲۹	درود شریف کی بارگاہ الہی تک رسائی
۳۲	المقعد المقرب کیا ہے	۲۹	نیکیوں کے کم پڑ جانے پر درود شریف کام آیا گا
۳۳	اللہ اللہ لوٹ کی جائے ہے	۳۰	ایک اشکال کا ازالہ
۳۴	وہ درود جس کا ثواب ستر فرشتے ہزار دن تک لکھتے رہتے ہیں	۳۰	صدقة کی جگہ کفایت کرنے والی دعاء
۳۵	روزانہ سو مرتبہ درود پڑھنے والے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام	۳۰	درود شریف پڑھنا افضل ہے یا صدقہ دینا
۳۶	اذان کے بعد درود شریف اور وسیلہ کی دعاء	۳۱	مؤمن کی حرص
۳۶	وسیلہ کی دعا مانگنے پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے	۳۳	درود شریف کی برکات
۳۶	وسیلہ کیا چیز ہے	۳۳	خاص خاص درود کے خاص خاص فضائل
۳۷	مقامِ فضیلت اور مقامِ محمود	۳۳	صحابہ کرام ایک دوسرے کو کس چیز کا ہدیہ پیش کرتے تھے
۳۸	مسجد میں آتے جاتے ہوئے سلام بھیجننا	۳۳	حدیث مذکورہ کی دیگر روایات
۳۸	مسجد میں جانے کے وقت رحمت کے دروازوں کا کھلنا	۳۴	مختلف روایات میں مختلف الفاظ کی حکمت
۳۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل	۳۵	سب سے افضل درود شریف
۳۹	مسجد میں جانے کی دعاء	۳۶	چند قابل وضاحت امور
۴۰	خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے درود شریف	۳۷	بہت بڑے ثواب والا درود شریف
۴۰	مختلف بزرگوں کے مختلف عمل	۳۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُنمی کہنے کی وجہ
۴۱	حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہو اعمال	۳۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف
۴۲	اصل چیز اطاعت ہے	۳۷	بڑے پیانے میں ناپے جانے کا مطلب
۴۳	جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً آپ ہی کو دیکھا	۳۹	جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کا حکم
۴۴	درود شریف نہ بھیجنے والے کیلئے وعید	۳۹	وفات کے بعد بھی درود پیش ہوتا ہے
۴۵	حضرت سلیمان بن حکیم اور حضرت شیبانؓ کے واقعات	۴۰	دوسری روایات

۶۹	دڑود شریف پڑھنے والے منہ کا بوسہ	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین
۶۹	حضرت حواء علیہ السلام کا مہر	بخل کون ہے؟
۷۰	کثرت درود والی مجلس میں حاضری کا حکم	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ بھیجنा ظلم ہے
۷۰	کثرت درود کی وجہ سے اکرام و اعزاز	جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو وہ وباں ہوگی
۷۰	دڑود شریف گناہوں کی مغفرت کا سبب بن گیا	درود شریف بھیجنے سے دعاء قبول ہوتی ہے
۷۱	سید حاجت میں جانے کا عمل	دعاء میں درود شریف کا مستحب ہونا
۷۲	درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے حساب معاف	حاجت براری کا مسنون عمل
۷۲	درود شریف کی وجہ سے ایک بنی اسرائیلی کی بخشش	درود شریف کی شرعی حیثیت
۷۳	بد عملی سے نجات کا نسخہ	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ "سیدنا" کہا مستحب ہے
۷۳	شیخ شبیٰ کے پڑھوئی کا واقعہ	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کیسا تھا درود شریف لکھنا
۷۳	پل صراط پر آسانی	درود شریف کے متعلق اہم آداب و مسائل
۷۴	حدیث کے ایک طالب علم کا اعزاز	درود شریف کے متعلق حکایات
۷۴	درود نہ پڑھنے پر تنبیہ	درود شریف کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائیگا
۷۴	سلام چھوڑنے پر تنبیہ	روضہ شریفہ پر سلام عرض کرنے کیلئے خصوصی قاصد بھیجنा
۷۵	حضرت ابن الی سلیمان کے والد کی مغفرت	ایک درود کی برکت
۷۵	فرشتوں کی امامت کا منصب	ڈوبتے ہوئے جہاز کا نجات پانا
۷۶	نور کاستون	ایک کاتب کی بخشش
۷۶	درود وسلام کی وجہ سے کتاب کی تحسین	درود شریف پڑھنے والی لڑکی کی کرامت
۷۶	درود شریف نہ لکھنے پر تنبیہ	قبر سے خوشبو آنا
۷۶	حضرت ابو طاہر محدث کا واقعہ	کاتب کی درود شریف والی بیاض مقبول ہو گئی
۷۷	موئے مبارک پر درود پڑھنے کی برکت	ایک مہینہ تک کرہ سے خوشبو آنا
۷۸	ستر ہزار کی بخشش	فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھنا
۷۸	قرب الہی حاصل کرنے کا عمل	امام شافعی رحمہ اللہ کا معاملہ
۷۹	درود شریف پڑھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا	درود کی کثرت کی وجہ سے بخشش

۱۰۳	کہاں کہاں درود شریف پڑھنا سنت و مستحب ہے اور کہاں مکروہ و منوع ہے	۷۹	علی بن عیسیٰ وزیر کارو زانہ ہزار مرتبہ درود پڑھنا
۱۰۵	قصیدہ بہاریہ سے چند اشعار	۸۰	تیری کثرت درود نے مجھے گھبرادیا
۱۰۶	مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کا واقعہ	۸۱	علامہ سخاویؒ کی کتاب کی مقبولیت
۱۱۱	چالیس درود شریف	۸۱	حضرت شبیلی رحمہ اللہ کا اعزاز
۱۱۷	خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۸۲	عجیب واقعہ
۱۱۷	مدرسہ دارالعلوم دیوبند ایک الہامی مدرسہ ہے	۸۳	موت کی تنجی سے حفاظت
۱۱۷	مذینہ تشریف لے آئے	۸۳	تریاقِ مجرّب
۱۱۷	حضرت قاری محمد طیب صاحب کے والد ماجد کا خواب	۸۴	ہر قدم پر درود پڑھنے والے آدمی کا واقعہ
۱۱۸	قادیانیوں کی نذمت	۸۵	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
۱۱۸	شهادت عثمان رضی اللہ عنہ	۸۷	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی
۱۱۹	حضرت عامر رضی اللہ عنہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں	۹۰	رات اور دن کا مناظرہ
۱۱۹	حضرت نافع کے منہ سے خوشبو	۹۱	واقعہ معراج
۱۱۹	حضرت خواجہ فضیل بن عیاض	۹۳	چهل درود شریف
۱۱۹	نہر زبیدہ	۹۳	صیغہ قرآنی
۱۲۰	امام شافعیؓ کے لیے میزان کا عطیہ	۹۳	چهل حدیث مشتمل بر صلوٰۃ وسلام (باضافہ ترجمہ) صیغہ صلوٰۃ
۱۲۰	نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پھرتے ہی بینا ہو گیا	۱۰۲	چهل درود شریف
۱۲۰	امام بخاریؓ کا مقام	۱۰۳	مخصوص اوقات کے مخصوص درود شریف



اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمِنْ كَانَ مُبْلِيْكَ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمِنْ كَانَ مُبْلِيْكَ

كتاب مطبوع في بيروت في شهر رمضان سنة ١٤١٣

النَّجَاب

فضائل درود شريف

اللَّهُ تَعَالَى دُرُودٌ بِحِجْبٍ هِيَ تَمْ بِحِجْبٍ دُرُودٌ بِحِجْبٍ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ يُسَوِّمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّاجِيُّمُ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِكُكُتَّةٍ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوةً عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (پ ۲۲۷)

ترجمہ: پیشک اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (بیان القرآن)

کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ محمود تک پہنچانا ہے۔ اور وہ مقامِ شفاعت ہے اور ملائکہ کے درود کا مطلب اُن کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتی مرتبہ کے لئے اور حضور کی امت کے لئے استغفار اور مؤمنین کے درود کا مطلب حضور کا اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور کے اوصافِ جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے اس اعزاز سے بہت بڑھا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کر اکر عطا فرمایا تھا اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم کے اعزاز کے کوہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔

علماء نے لکھا ہے کہ آیتِ شریفہ میں حضور کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا اور آپ کو نبی کے لفظ سے جیسا کہ ان اولیٰ النَّاسِ بِابْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ میں ہے اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز
تشریح: حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں۔ ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکوئین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلوٰۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مؤمنو! تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ آیتِ شریفہ کو لفظ ”ان“ کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں کہ آیتِ شریفہ مضارع کے صیغہ کے ساتھ یصلوٰن ہے جو دلالت کرنے والا ہے۔ استرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے۔ اس بات پر کہ اللہ اور اس

دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ، بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی شناواعز ازا کرام کرتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں مگر ہر ایک کی صلوٰۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوٰۃ و رحمت بھیجو۔ امام بخاریؓ نے ابوالعالیؓ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب آپ کی تعریف کرنا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں کا درود انکا دعا کرنا ہے حضرت ابن عباسؓ سے یصلوٰن کی تفسیر یہ رکون نقل کی گئی ہے یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجرؓ کہتے ہیں یہ قول ابوالعالیؓ کے موافق ہے البتہ اس سے خاص ہے۔ حافظؓ نے دوسری جگہ صلوٰۃ کے کئی معنی لکھ کر لکھا ہے کہ ابوالعالیؓ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولی ہے کہ اللہ کی صلوٰۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے حضور پر، اور ملائکہ وغیرہ کی صلوٰۃ اس کی اللہ سے طلب ہے اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے۔

لفظِ صلوٰۃ کا معنی

یہاں ایک بات قبل غور یہ ہے کہ صلوٰۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اُس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ علماء نے اس جگہ صلوٰۃ کے بہت نے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالیٰ شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہو نگے وہ مراد ہو نگے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلوٰۃ علی النبی کا مطلب نبی کی شان و تعظیم رحمت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلوٰۃ منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ہنا و تعظیم مرادی جائے گی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے پر بیٹا باپ پر بھائی پر مہربان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی بھائی پر

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔

ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن عظیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَآخِرُ دَعْوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ اور اس کی برکات

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يَاهُا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوٰعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (پ ۲۲۷)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (بیان القرآن)

دروڈ بھیجنے کا طریقہ اسلام پر مضمون کے خیز ہے یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو وہی چیز اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف لوٹا دی بندوں نے چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہؓ نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا جیسا کہ اور گذرنا۔ دوسرا اسوجہ سے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر۔ یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور کی خدمت میں بھیجیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہہ کر کہ اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ خود اللہ شانہ سے الثاسوال کریں کہ وہ درود بھیجے یعنی نماز میں ہم اصلی علی مُحَمَّدٍ کی جگہ اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ پڑھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں۔ پس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا شانہ کرے جو پاک ہے۔ اسلئے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور پر صلوٰۃ بھیجے تاکہ رب طاہر سے نبی طاہر پر صلوٰۃ ہو ایسے ہی علامہ نیشاپوریؒ سے بھی نقل کیا ہے کہ آدمی کو نماز میں صَلَیْت علی مُحَمَّدِنہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندہ کا مرتبہ اس سے قاصر ہے۔ اس لئے اپنے رب، ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور پر صلوٰۃ بھیجے تو اس صورت میں

تشریح: حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا یعنی التحیات میں جو پڑھا جاتا ہے السَّلَامُ عَلَيْكَ ایُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ تو آپ صلوٰۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرمادیجھے۔ آپ نے درود ابراہیمی ارشاد فرمایا۔ نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا درود بھیجنा یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابدال آباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں گویا ہم نے بھیجی ہیں حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الاعبیاؑ کی بارگاہ میں ان کے رہتبے کے لاٹ تھغہ پیش کر سکتا۔ علماء لکھتے ہیں ”اللہ سے رحمت مانگنے اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانہ پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لاٹ رحمت اترتی ہے اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔

ایک جاہلانہ اعتراض

اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کہ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور پر صلوٰۃ بھیجنے کا حکم ہے اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی مُحَمَّدِ اے اللہ تو

حکم کی بجا آوری سے تقرب حاصل کرنا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور کے لئے سفارش نہیں ہے اس لئے کہ ہم جیسا حضور کے لئے سفارش کیا کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے اور حضور سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور کے احسانات کے بدلہ سے عاجز تھے اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اسلئے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مكافات فرم۔

چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے اس لئے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے۔

یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے جس کو علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور پر درود حضور کی احتیاج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی بلکہ ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں۔

رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہے اور ہماری طرف اس کی نسبت مجازاً بھیت دعا کے ہے۔ ابن ابی جملہ نے بھی اسی قسم کی بات فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس لئے ہم نے اللہ جل شانہ ہی سے درخواست کی کہ وہی زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور کے درجہ کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری جگہ لا اُخْصِيُّ ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ حضور کا ارشاد ہے کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی خود شافرمائی ہے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح حضور نے تلقین فرمایا ہے اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہو گا اور نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت چاہیے اس لئے کہ کثرت درود محبت کی علامات میں سے ہیں جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتا ہے۔

ہماری طرف سے درود بھیجنے کا مقصد

علامہ سخاوی نے امام زین العابدین سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجننا اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے (یعنی سنی ہونے کی)

مقصود درود شریف سے اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں اس کے

دُعا کیجئے: اے اللہ! روزِ محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَةٍ نَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ تعالیٰ کی طرف سلام کی نسبت کیوں نہیں کی گئی

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (پ ۲۲۷)

تَرْجِيمَهُ: پیشک اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے رحمت صحیح ہے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (بیان القرآن)

اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔

منتخب بندوں پر سلام

فُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَى (پ ۱۹-۴۲)

آپ کہنے کے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے سزاوار ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جسکو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ (بیان القرآن)

علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؓ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا ہے کہ سلام بھیجن اللہ کے مختار بندوں پر اور وہ اس کے رسول اور انبیاء کرامؐ ہیں جیسا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلمؐ سے نقل کیا گیا ہے کہ عبادہ الَّذِينَ اصْطَفَى سے مراد انبیاء ہیں جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کے پاک ارشاد سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں ارشاد ہے۔ اور امام ثوریؓ و سدیؓ وغیرہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور ابن عباسؓ سے بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے اور ان

تشریح: حافظ ابن حجرؓ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیت شریفہ میں صلوٰۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے سلام کی نہیں کی گئی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے ایک دعا میں دوسرے انقیاد و اتباع میں۔ مؤمنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے تھے اس لئے اُن کو اس کا حکم کیا گیا۔ اور اللہ اور فرشتوں کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے تھے اسلئے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔

عبرتناک واقعہ

اس آیت شریفہ کے متعلق علامہ سخاویؓ نے ایک بہت ہی عبرناک قصہ لکھا ہے وہ احمد بیہانیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعت میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا تو يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ کے بجائے يُصَلُّونَ عَلَى عَلِيِّ النَّبِيِّ پڑھ دیا۔ جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علیؑ پر درود صحیح ہیں جو نبی ہیں (غالباً پڑھنے والا راضی ہوگا)۔ اس کے پڑھتے ہی گونگا ہو گیا، برص اور جدام یعنی کوڑھ کی بیماری میں متلا ہو گیا اور انہا اور اپانی بیوی ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اپنی پاک بارگاہ میں

کیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا یہی آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ پس جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرُونِيْ اذْكُرُوكُم ایسے ہی درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔

ترغیب کی ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے اس پر ستر ۰۷ دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں۔

مختلف روایات کا مطلب

یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اگر ثواب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسا یہاں ایک حدیث میں دس اور ایک میں ستر کا عدد آیا ہے تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ پر روز افزول ہوئے ہیں اسلئے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں گویا اولاً حق تعالیٰ شانہ نے دس کا وعدہ فرمایا بعد میں ستر کا اور بعض علماء نے اس کو پڑھنے والوں کے احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے۔ ملا علی قاریؒ نے ستر ۰۷ والی روایت کے متعلق لکھا کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس لئے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعہ کے دن ستر ۰۷ گنا ہوتا ہے۔

دونوں میں کوئی فرق نہیں کہ اگر صحابہ کرامؓ اس کے مصدقہ ہیں تو انبیاء کرامؓ اسکیں بطریق اولے داخل ہیں۔

ایک درود کے بدلہ دس درود

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لئے کافی ہے چہ جائیکہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اسکے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے دس دفعہ رحمتیں نازل ہوں پھر کتنے خوش قسم ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ سوالا کہ درود شریف کا معمول ہو جیسا بعض بزرگان دین اور اکابر کے متعلق سُنا ہے۔

علامہ سخاویؒ نے عامر بن ربیعہؓ سے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے، تمہیں اختیار ہے جتنا چاہے کم بھی جتنا چاہے زیادہ اور یہی مضمون عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی نقل کیا گیا اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے دس دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہؓ سے علامہ سخاویؒ نے یہ مضمون نقل کیا ہے اور جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ایک دفعہ درود بھیجئے پر انعامات خداوندی

و عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنہ فلیصل علی و من صلی علی مرات صلی اللہ علیہ عشر اوفی روایة من صلی علی صلوٰۃ واحده صلی اللہ علیہ عشر صلوٰۃ و حط عنہ عشر سیثات و رفعہ بہا عشر درجات۔ (رواہ احمد)

تَبَرِّجَهُ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا۔

کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعلیم کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر واز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور کے قریب جا کر حضور کو دیکھا۔ حضور نے سجدہ سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں (خدانخواستہ) آپ کی روح تو پر وازنہیں کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے اس کے شکرانہ میں اتنا طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے اور دس گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

تشریح: علامہ منذری نے ترغیب میں حضرت براءؓ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ہو گا اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر سو ۰۰۰ دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر برآءۃ مِنَ النِّفَاقِ وَ برآءۃ مِنَ النَّارِ۔ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ سو ۰۰۰ دفعہ اس پر ہزار دفعہ درود بھیجیں گے اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کریگا میں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہونگا اور گواہ۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قصہ
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم چار پانچ آدمیوں میں سے کوئی نہ

نہ خوشی ہوا بھی جبریل میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ بھی درود پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے اور دس گناہ معاف فرمائیں گے اور دس درجے بلند کریں گے اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا۔ تو جبریل نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ کو قیامت تک کیلئے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کیلئے وانتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كی دعا کرے (کذافی التغیب)۔

ایک اشکال کا جواب

علامہ سخاوی نے ایک اشکال کیا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا کی بناء پر ہر نیکی کا ثواب دس گئے ملتا ہے تو پھر درود شریف کی کیا خصوصیت رہی۔ بندہ کے نزدیک تو اس کا جواب آسان ہے اور وہ یہ کہ حسب ضابطہ اسکی دس نیکیاں علیحدہ ہیں اور اللہ جل شانہ کا دس دفعہ درود بھیجنما مستقل مزید انعام ہے اور خود علامہ سخاوی نے اس کا جواب یہ نقل کیا ہے کہ اول تو اللہ جل شانہ کا دس دفعہ درود بھیجنما اس کی اپنی نیکی کے دس گئے ثواب سے کہیں زیادہ ہے اسکے علاوہ دس مرتبہ درود کے ساتھ دس درجوں کا بلند کرنا، دس گناہوں کا معاف کرنا، دس نیکیوں کا اسکے نامہ اعمال میں لکھنا اور دس غلاموں کے آزاد کرنے کے بقدر ثواب ملنا مزید برآں۔

شان رسالت پناہ میں ایک گستاخی پر

دس لعنتیں نازل ہوتی ہیں

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں تحریر فرمایا

دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور نے فرمایا بھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی، کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا (کذافی التغیب) حضرت علامہ سخاوی نے حضرت عمر سے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔“

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والی روایت

حضرت ابو طلحہ النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بشاش تشریف لائے چہرہ انور پر بشاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا صحیح ہے۔ میرے پاس میرے رب کا پیام آیا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اور دس سینات اس سے مٹائیں گے اور دس درجے اس کے بلند کریں گے۔ ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر دس دفعہ درود بھیجوں گا اور جو مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر دس دفعہ سلام بھیجوں گا۔ ایک اور روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بشاشت سے بہت ہی چمک رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں

اس آیت میں وارد ہوئے ہیں۔ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ هَمَازٌ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِي أَثِيمٌ عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَاماً وَبَنِيمٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اِيْتَسَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ ”اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو بے وقت ہو، طعنہ دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو۔ حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اس کے علاوہ حرام زادہ ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہو جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باعثیں ہیں جو انگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔“ (بیان القرآن)

ہے کہ جس طرح حدیث شریف کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسی طرح سے قرآن شریف کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارفع میں ایک گتابخی کرنے سے نعوذ باللہ منها اس شخص پر منجانب اللہ دس لغتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بسرا استہرا یہ دس کلمات ارشاد فرمائے۔ حلاف، مهین، هماز، مشاء، نمیم، مناع، لخیر، معتد، اثیم، عتل، زنیم، مکذب الالا یات بدلالت قوله تعالیٰ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اِيْتَسَا قال أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ فقط یہ الفاظ جو حضرت تحانویؒ نے تحریر فرمائے ہیں یہ سب کے سب انتیسویں پارے میں سورہ نون کی

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔
ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اُنھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! روز محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجائے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دُعَوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب والا شخص

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس بی یوم القيمة اکثرهم علی صلوٰۃ۔ (رواہ الترمذی)

تَرْجِحُهُ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلاشک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہونگے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سُنت کو زندہ کرے۔ تیرے وہ جو میرے اپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاویؒ نے حضرت ابن عمرؓ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو اس لئے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے قیامت میں نور ہے۔

کثرت درود کی کم از کم مقدار

علامہ سخاویؒ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار تین سو مرتبہ ہے اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ، بھی اپنے متولین کو تین سو مرتبہ بتایا کرتے تھے۔

محمد بن کی خصوصیت

علامہ سخاویؒ نے حدیث بالا ان اولی الناس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محمد بن ہونگے اس لئے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے

درود شریف پر عالم آخرت میں ملنے والے انعامات کی دیگر روایات

تَسْتَخِّرُ: علامہ سخاویؒ نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا گل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قرب ہوگا۔ حضرت انسؓ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قرب ہو وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث نمبر ۳ میں بھی یہ مضمون آرہا ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اسلئے کہ قبر میں ابتداء تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائیگا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجننا، قیامت کے دن پل صراط کے اندر ہیرے میں ٹورہے اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں ٹلکیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ زادالسعید میں حضرت انسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کریگا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ علامہ سخاویؒ نے

ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز سوار مجھ پر درود بھیجے اس کی سو ۱۰۰ حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ تیس دنیا کی باقی آخرت کی۔

درُود شریف پہنچانے والے فرشتے

(۶) ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو (زمین میں) پھرتے رہتے ہیں۔ اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔

اور بھی محدث و صحابہ سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغیب میں حضرت امام حسن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو پیشک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے اور حضرت انس کی حدیث سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو کوئی مجھ پر درود بھیجا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلہ میں اس پر درود بھیجا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔

ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہؓ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں اس لئے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خطیب نے ابو عیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے تھکرثت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں ہیں بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں چاہے عربی میں ہوں یا اردو میں۔

کسی کتاب میں درود شریف لکھنے کا اجر

زاالسعید میں طبرانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیج کسی کتاب میں (یعنی لکھے) ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میراث اس کتاب میں رہیگا۔

صحح شام درود شریف کا وظیفہ

اور طبرانی ہی سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صحح کو مجھ پر دس ۰ ابار درود بھیج اور شام کو دس ۰ ابار قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ہوگی امام مستغفری سے حضور کا یہ

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

وَأَخْرُدَعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف پہنچانے والا مخصوص فرشتہ

عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و کل بقبری ملکا اعطاه اسماع الخلاق فلا یصلی علی احد الی یوم القيمة الا ابلغنی باسمه واسم ابیه هذا فلان بن فلان قد صلی علیک. (رواه البزار)

تَرْجِحُهُ: حضرت عمار بن یاسرؓ نے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سئنے کی قدرت عطا فرمائی ہے پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجا تاہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لیکر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

اس پر ایک فرشتہ مقرر کردیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک ایسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایا بھیجے جاتے ہیں۔

دونوں روایات میں تطبیق

اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے۔ جو قبر اطہر پر متعین ہے جو ساری دنیا کے صلوٰۃ وسلام حضور تک پہنچاتا رہے اور اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں جو حضور تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور تک امت کا سلام پہنچاتا رہے اور یہ فرشتے جو سیاصین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجا جاتا ہے اور جمع میں اسکو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچائے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی۔ پھر سید الکونین فخر اذسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا اس لئے جتنے بھی فرشتے پہنچا میں بدل ہے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تَسْتَخْرِجُ: علامہ سخاویؒ کے قول بدیع میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلہ میں اس پر دس مرتبہ درود (رحمت) صحیح ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو ساری مخلوق کی بات سئنے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتہ والا مضمون نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالیٰ شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرمائی۔ حضرت ابو امامہؓ کے واسطے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا ہے اللہ جل شانہ اس پر دس دفعہ درود (رحمت) صحیح ہیں اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انسؓ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی سو ۱۰۰ احادیث پوری کرتے ہیں اور

روضہ اطہر پر پڑھا ہو اور وحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں

عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیاً ابلغته۔ (رواہ البیهقی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دُور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

حجرہ شریف کے اندر سے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ آواز سنی۔
روضہ اطہر پر حاضر ہو کر درود پڑھنے کی فضیلت ملا علی قاریٰ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور پڑھنے سے۔ اس لئے کہ قرب میں جو خصوصی خشوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں۔ یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ اور دُور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے سعادت ہے چہ جائیکہ ہر سلام کا جواب آوے۔ اس مضمون کو علامہ سخاویؒ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کیلئے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آجائے۔

ایک عربی شعر کا ترجمہ ہے: جس خوش قسمت کا خیال بھی تیرے دل میں گز رجائے وہ اس کا مستحق ہے کہ جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے (اچھے کو دے)۔

ع ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

تشریح: علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دُور سے درود بھیج فرشتہ اُس پر متعین ہے کہ حضور تک پہنچائے اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اُس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دُور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل سے گذر ہی چکا کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔

حضرت سلیمان بن حکیم اور حضرت ابراہیم بن شیبانؓ کے واقعات

علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں سلیمان بن حکیم سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ! یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں اور اُن کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فرانغ پرمدینہ منورہ حاضر ہو اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے

تھے۔ نیز مسلم ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرات انبیاء کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نقش مبارک کے قریب حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا، کھولا اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے بنی اللہ جل شانہ، آپ پر دو موتيں جمع نہ کریں، ایک موت جو آپ کیلئے مقدر تھی وہ آپ پوری کر چکے (بخاری) علامہ سیوطی نے حیاتِ انبیاء میں مستقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ چیز حرام کر رکھی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھائے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی حیاتِ برزخی اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سُنّتے میں کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں اور آپ کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی اور اس پر اجماع ہے۔ امام نیہجیؒ نے انبیاء کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث **الأنبياء أحياه في قبورهم يصلون** کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاویؒ نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے اور امام مسلمؓ نے حضرت انسؓ ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شبِ معراج میں حضرت موسیٰؓ کے پاس سے گذراؤ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔

ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! روزِ محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

روضہ اطہر پر پڑھا ہو اور وحضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں

عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیاً ابلغته۔ (رواہ البیهقی)

تَنْجِحًا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دُور سے مجھ پر درود بھیجا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِمَ
الْفُرَّاجِيْلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا نَذِيرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ السَّلَامُ
عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ
عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى
سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
جَزَّاكَ اللَّهُ عَنَّا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلَ مَاجِزَى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ
وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الدَّاِكِرُونَ
وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذَكْرِكَ الْغَافِلُونَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي
الْأَوَّلِينَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ
وَأَطْيَبَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَمَا
اسْتَقَدْنَا بَكَ مِنَ الضَّلَالِ وَبَصَرْنَا بَكَ مِنَ الْعَمَى
وَالْجَهَالَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ
بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ
فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اللَّهُمَّ اتِّهِ نِهايَةَ مَا يَنْتَغِي إِنْ يَأْمُلُهُ
الْأَمْلُونَ۔ (قلت وذکرہ التووی فی مناسکہ باکثر منه)

آپ پر سلام اے اللہ کے رسول آپ پر سلام اے اللہ
کے نبی۔ آپ پر سلام اے اللہ کی برگزیدہ ہستی۔ آپ پر سلام
اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ذات۔ آپ پر سلام اے
اللہ کے جبیب۔ آپ پر سلام اے رسولوں کے سردار۔ آپ پر

مدینہ منورہ میں حاضری کا ادب

تشریح: علامہ سخاوی قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ متحب
یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے
تو درود شریف کثرت سے پڑھے اور جتنا قریب ہوتا جائے اتنا، ہی
درود شریف میں اضافہ کرتا جائے اسلئے کہ یہ موقع وحی اور قرآن
پاک کے نزول سے معمور ہیں۔ حضرت جبریل حضرت میکائیل
کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے اور اس کی منی سید البشر پر مشتمل ہے۔
اسی جگہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول کی سنتوں کی
اشاعت ہوئی ہے یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں۔ یہاں پہنچ
کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھر پور کر لے گویا کہ وہ
حضور کی زیارت کر رہا ہے اور یہ تحقیق ہے کہ حضور ان کا سلام مُن
ر ہے ہیں۔ آپ کے جھٹکے اور فضول باتوں سے احتراز کرے۔

صلوٰۃ وسلام

اس کے بعد قبلہ کی جانب سے قبر شریف پر حاضر ہو اور بقدر
چار ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو اور نیچی نگاہ رکھتے ہوئے نہایت
خشوع، خصوص اور ادب و احترام کے ساتھ یہ پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ
اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ السَّلَامُ

اور اللہ کے بارے میں کوشش کا حق ادا فرمادیا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ سے زیادہ عطا فرماجس کی امید کرنے والے کر سکتے ہیں۔ (یہاں تک سلام کا ترجمہ ہوا)

اس کے بعد اپنے نفس کے لئے اور سارے مومنین اور مومنات کیلئے دعا کرے۔ اس کے بعد حضرات شیخین حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام پڑھے اور ان کے لئے بھی دعا کرے اور اللہ سے اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ان دونوں حضرات کو بھی ان کی مساعی جیلیہ جوانہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں خرچ کی ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ادا بھیگی میں خرچ کی ہیں ان پر بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔

درود و سلام دونوں پڑھنا بہتر ہے

اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے (یعنی السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رَسُولُ اللَّهِ افضل ہے الصلوٰۃُ عَلَيْکَ یا رَسُولُ اللَّهِ سے) علامہ باجیؒ کی رائے یہی ہے کہ درود افضل ہے۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ پہلا ہی قول زیادہ صحیح ہے جیسا کہ علامہ مجدد الدین صاحب قاموسؒ کی رائے ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں مامن مسلم یسلم علی عن دقبری آیا ہے۔

انھی۔ علامہ سخاویؒ کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن صلوٰۃ کا لفظ (یعنی درود) بھی کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص میری قبر کے قریب درود پڑھتا ہے میں اس کو سستا ہوں۔ اسی طرح بہت سی روایات میں یہ مضمون آیا ہے اس لئے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام

سلام اے خاتم النبیین۔ آپ پر سلام اے رب العلمین کے رسول۔ آپ پر سلام اے سردار ان لوگوں کے جو قیامت میں روشن چہرے والے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوں گے (یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے کہ دنیا میں جن اعضاء کو وہ وضو میں دھوتے رہے ہیں وہ قیامت کے دن نہایت روشن ہوں گے)

آپ پر سلام اے جنت کی بشارت دینے والے۔ آپ پر سلام اے جہنم سے ڈرانے والے۔ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام جو طاہر ہیں۔ سلام آپ پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ سلام آپ پر اور آپ کے تمام صحابہ گرام پر۔ سلام آپ پر اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ، آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے ان سب سے بڑھ کر جزائے خیر عطا فرمائے جتنی کہ کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے جب بھی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب بھی کہ غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہوں اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر اولین میں درود بھیجے اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر آخرین میں درود بھیجے اس سب سے افضل اور اکمل اور پاکیزہ جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی پر بھی بھیجا ہو جیسا کہ اس نے نجات دی ہم کو آپ کی برکت سے گمراہی سے اور آپ کی وجہ سے جہالت اور اندر ہے پن سے بصیرت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے امین ہیں اور ساری مخلوق میں سے اس کی برگزیدہ ذات ہیں اور اسکی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا اس کی امانت کو ادا کرویا، امت کے ساتھ پوری پوری خیر خواہی فرمائی

قَدْ أتَيْتَنِي مُسْتَغْفِرًا فَاسْأَلْكَ أَنْ
تُوْجِبَ لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ
أَتَاهُ فِي حَيَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ
بِنَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اے اللہ تو نے اپنے کلام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں سے پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور پھر اللہ جل شانہ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنیوالا رحمت کرنیوالا پاتے اور میں تیرے نبی کے پاس حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ استغفار کرنیوالا ہوں۔ تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے لئے مغفرت کو واجب کر دے جیسا کہ ٹو نے مغفرت واجب کی تھی اس شخص کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس کے بعد اور لمبی چوڑی دعائیں ذکر کی۔

دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بجائے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوة والسلام علیک یا نبی اللہ اسی طرح اخیر تک السلام کے ساتھ الصلوة کا لفظ بھی بڑھادے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس صورت میں علامہ باجی اور علامہ سخاوی دونوں کے قول پر عمل ہو جائے گا۔

روضہ اطہر کے قریب مانگنے کی دعا

وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن الحسین سامری حنبلی اپنی کتاب مستویعہ میں زیادہ قبرالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آداب زیارت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ پھر قبر شریف کے قریب آئے اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے اور منبر کو اپنی بائیں طرف کر کے کھڑا ہو۔ اور اس کے بعد علامہ سامری حنبلی نے سلام اور دعا کی کیفیت لکھی ہے اور منجملہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پڑھے۔

**اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ لِنَبِيِّكَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْاَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوكَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ
الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا وَإِنِّي**

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔
ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دُعَوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جو آدمی سارا وقت درود شریف میں صرف کرے اس کے سارے کاموں میں کفایت کی جاتی ہے

عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یار رسول اللہ انی اکثر الصلوۃ علیک فکم اجعل لک من صلوٰتی فقال ماشت قلت الرابع قال ماشت فان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ماشت فان زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ماشت فان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلوٰتی کلها قال اذا تکفی همک ویکفر لك ذنبک (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ! میں آپ پر درود کثرت سے بھیجننا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعائیں سے کتنی مقرر کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چوتھائی۔ حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس پر بڑھادے تو تیرے لئے بہتر ہے تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر بڑھادے تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا تو دو تہائی کر دوں حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس سے بڑھادے تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا یار رسول اللہ پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔

کیا ہے، اسکی کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ گرام نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانع ہو۔ یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے تو میں اسکو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔

تمام کاموں میں کفایت کاراز

صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب بنده اپنی طلب و رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اپنے مطالب پر تو وہ کفایت

تشریح: مطلب توضیح ہے وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لئے دعاء کا مقرر کر رکھا ہے اور چاہتا یہ ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں تو اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لئے کتنا وقت تجویز کروں۔ مثلاً میں نے اپنے اور ادو و ظائف کے لئے دو گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کیلئے تجویز کروں۔ علامہ سخاویؒ نے امام احمدؒ کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لئے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور نے فرمایا ایسی صورت میں حق تعالیٰ شانہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ علامہ سخاویؒ نے متعدد صحابہ سے اسی قسم کا مضمون نقل

اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث نور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ "نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی کہ تمام اوقات درود شریف ہی میں خرج کریں۔ اپنے اکابر کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تائید کرتے تھے۔

چوتھائی رات گذر نے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء
 علامہ منذری نے ترغیب میں حضرت ابی گیلانی کی حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گذر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوجاتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو (یعنی بار بار فرماتے) راجھہ آگئی اور رادفہ آرہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آرہی ہے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آرہی ہے، اس کو بھی دو دفعہ فرماتے۔ راجھہ اور رادفہ قرآن پاک کی آیت جو سورہ والنماز عات میں ہے کیطرف اشارہ ہے۔
 جسمیں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَبَعُّهَا الرَّاجِفَةُ قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَّاجْفَةً أَبْصَارُهَا خَاسِعَةً جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیز سب کو ہلا ڈالے گی۔ اس سے مراد پہلا صور ہے اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی اس سے مراد دوسرا صور ہے بہت سے دل اس روز خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ (بیان القرآن مع زیادۃ)

کرتا ہے اسکے سب مہمات کی۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ كَانَ یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو۔

شیخ عبدالوہاب متفقی کی شیخ عبدالحق کو نصیحت

جب شیخ بزرگ عبدالوہاب متفق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبدالحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کی رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بعد ادا فرائض کے مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کواس میں صرف کرنا اور چیز میں مشغول نہ ہونا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کچھ عدد معین ہو۔ فرمایا، یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کا رطب اللسان ہوا اور اس کے رنگ میں رنگیں ہوا اور مستغرق ہوا سیمیں اھ۔

ایک اشکال اور اس کا ازالہ

اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف سب اور اد و و ظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے، اسلئے کہ اوقل تو خود اس حدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کیلئے دعاوں کا مقرر کر رکھا تھا۔ اس میں سے درود شریف کیلئے مقرر کرنے کا ارادہ فرمائے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے جیسا کہ فضائل ذکر کے باب دوم حدیث نمبر ۲۰ کے ذیل میں گذر رہے کہ بعض روایات میں الْحَمْدُ لِلَّهِ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے اور بعض روایات میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے اسی طرح سے اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے

حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی

حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادر کتہ شفاعتی یوم القيمة۔ (رواه الطبرانی)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر دس کو ادکن اور تشریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے ہیں۔

ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندہ کی قبر کے پاس لے جاؤ پس اس کے لئے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو گی۔

نیکیوں کے کم پڑھانے پر درود تشریف کام آیا گا
زاد السعید میں موہب لدنیہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کی برابر نکال کو میزان میں رکھ دیں گے۔ جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے۔ آپ فرمائیں گے میں تیرانجی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔

ایک اشکال کا ازالہ

اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگشت کے برابر میزان کے پلٹے کو کیسے جھکا دیگا۔ اسلئے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہو گا اتنا ہی وزن زیادہ ہو گا۔ حدیث البطاقہ یعنی ایک ٹکڑا کا غذہ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا وہ ننانوے دفتروں کے مقابلہ میں اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ منتها نظر تک ڈھیر لگا ہوا تھا غالب آ گیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اور بھی متعدد روایات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔

تشریح: علامہ سخاویؒ نے متعدد احادیث سے درود تشریف پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت حاصل ہونے کا مژده نقل کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو مجھ پر درود پڑھئے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اس حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد بھی یہ لفظ نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لئے سفارش کروں گا۔ حضرت رویفع بن ثابتؓ کی روایت سے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ درود تشریف پڑھے اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقْرَبَ عِنْدِكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اس کیلئے میری شفاعت واجب ہے۔

سفارش یا گواہی

علامہ سخاویؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سُنا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ ”یا“ کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لئے سفارشی اور بعض کے لئے گواہ۔ مثلاً اہل مدینہ کے لئے گواہ دوسروں کے لئے سفارشی یا فرمانبرداروں کے لئے گواہ اور گناہ گاروں کے لئے سفارشی وغیرہ۔

درود تشریف کی بارگاہ الہی تک رسائی

حضرت عائشہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا

صدقہ کی جگہ کفایت کرنے والی دعاء

عن ابی سعید الخدرا رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائے اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنت والمسلمین والمسلمات فانها زکوة وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتها الجنة. (رواہ ابن حبان)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے (اللہم صل سے اخیر تک) اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بن دے ہیں اور تیرے رسول ہیں اور رحمت بھیج موسیٰ مرد اور موسیٰ عورتوں پر، پس یہ دعاء اسکے لئے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے اور موسیٰ کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنा تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنیوالا ہے تمہارے رب کی رضاۓ کا سبب ہے اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے (یعنی انکو بڑھانیوالا اور پاک کرنیوالا ہے) حضرت انسؓ کی حدیث سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اسلئے کہ مجھ پر درود تمہارے لئے (گناہوں کا) کفارہ ہے اور زکوٰۃ (یعنی صدقہ) ہے۔

موسیٰ کی حرص

اور حدیث پاک کا آخری مکڑا کہ موسیٰ کا پیٹ نہیں بھرتا، اسکو صاحب مشکلوٰۃ نے فضائل علم میں نقل کیا ہے اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے، اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے اور مطلب ظاہر ہے کہ موسیٰ کامل کا پیٹ نیکیاں لکانے سے کبھی نہیں بھرتا وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح ان کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف ہی سے صدقہ کی فضیلت حاصل کرے۔ خیر کا لفظ علی العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم

دروود شریف پڑھنا افضل ہے یا صدقہ دینا
تشریح: علامہ سخاویؒ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبانؒ نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور پر درود صدقہ سے بھی افضل ہے اسلئے کہ صدقہ صرف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہو نیکے علاوہ اللہ تعالیٰ شانہ اور اسکے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں۔ اگرچہ علامہ سخاویؒ خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علامہ سخاویؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لئے کہ مجھ پر درود بھیجننا تمہارے لئے زکوٰۃ (صدقہ) کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لئے زکوٰۃ (صدقہ) ہے۔ نیز حضرت علیؓ کی روایت سے حضور

اور ان کے اعمال کو پا کیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کیلئے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قیراط کے برابر ثواب کا لکھا جانا اور قیراط بھی وہ جو احمد پھاڑ کے برابر ہو اور اسکے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلقا اور جو شخص اپنی ساری دعائوں کو درود بنا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت اور خطاؤں کا مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پاننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کیلئے شاہد و گواہ بننا اور آپ کی شفاعت کا واجب ہونا اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا اور قیامت کے دن عرش کے سایہ میں داخل ہونا اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا اور حوض کو شرپ حاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن کا نصیب ہونا اور جہنم کی آگ سے خاصی کا نصیب ہونا اور پل صراط پر ہولت سے گذر جانا اور مرنے سے پہلے اپنے مقرب ٹھکانا جنت میں دیکھ لینا اور جنت میں بہت ساری بیسوں کا ملنا اور اس کے ثواب کا میں جہادوں سے زیادہ ہونا اور نادار کے لئے صدقہ کے قائم مقام ہونا، اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے سو ۱۰۰ حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں اور عبادت تو ہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محظوظ ہے اور مجالس کے لئے زینت ہے اور فقر کو اور تنگی معيشت کو دور کرتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اسباب خیر تلاش کئے جاتے ہیں اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو گا اور اس کی برکات سے خود درود پڑھنے

اور دوسری چیزوں کو شامل ہے۔ لیکن صاحب مظاہر حق[ؒ] نے بھی صاحب مرقات وغیرہ کے اتباع میں خیر سے علم ہی مراولیا ہے۔ اس لئے وہ تحریر فرماتے ہیں، ہرگز نہیں سیر ہوتا مون خیر سے یعنی علم سے یعنی اخیر عمر تک طلب علم میں رہتا ہے اور اسکی برکت سے بہشت میں جاتا ہے۔ اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کو کہ دنیا سے با ایمان جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور اس درجہ کو حاصل کرنے کے لئے بعض اہل اللہ اخیر عمر تک تحصیل علم میں مشغول رہے ہیں با وجود حاصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیع ہے جو کہ مشغول ہو ساتھ علم کے اگرچہ ساتھ تعلیم و تصنیف کے ہو، حقیقت میں ثواب طالب علم اور تکمیل اس کی کاہی ہے اس کو (حق)

درود شریف کی برکات

اس فصل کو قرآن پاک کی دو آیتوں اور دس احادیث شریفہ پر مختصر اختتم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات بہت کثرت سے ہیں ان کا احصاء بھی اس مختصر رسالہ میں دشوار ہے اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وابارک وسلم کے امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ ان کی حق ادائیگی ہو سکتی ہے اس بناء پر جتنا بھی زیادہ آدمی درود پاک میں رطب اللسان رہتا وہ کم تھا جے جائیکہ اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اس حق ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر و ثواب اور احسانات فرمادیئے۔

علامہ سخاوی[ؒ] نے اول مجملًا ان انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے جو درود شریف پر مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں باب ثانی درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندہ پر درود بھیجننا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجننا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجننا، اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا

میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، پس جتنا بھی ہو سکتا ہے، سید الاستادات اور معدن السادات پر درود کی کثرت کیا کر اسلئے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا اور ذریعہ ہے بہترین عطاوں کا اور ذریعہ ہے مضرات سے حفاظت کا اور تیرے لئے ہر اس درود کے بدلہ میں جو تو پڑھے دس درود ہیں، جبار الارضین والسموت کے طرف سے اور درود ہے اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور جگہ افليسی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کوئی سیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے اس ذاتِ اقدس پر درود کے مقابلہ میں جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جسمیں گھانا نہیں۔ اولیاً کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے۔ پس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمارہ کر اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف سفرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں برآئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشت ناک دن میں امن نصیب ہوگا۔

والا اور اس کے بیٹھے اور پوتے مشفع ہوتے ہیں اور وہ بھی منتظر ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ بیشک نور ہے۔ اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اسکی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بارکت اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین و دنیادوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کیلئے اسکی رغبت پیدا کرنے والے ہیں ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حرص ہو اور ذخیرہ اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاویؒ نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر ان مضمون کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا روایات کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت کی شرافت پر میں دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود، درود پڑھنے والے پر المضاعف (یعنی دس گنا) ہوتا ہے اور اس کی نیکیوں

دُعا کیجئے

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے، میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی، میں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خاص خاص درود کے خاص خاص فضائل

عن عبد الرحمن رضى الله عنه بن ابى لیلی قال لقینی کعب بن عجرة فقال الا
اهدى لك هدية سمعتها من النبى صلی الله عليه وسلم فقلت بلى فاھدھالی فقال
سالنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلنا يارسول الله كيف الصلوة عليکم اهل
البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم عليک قال قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل
محمد كما صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک
على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک
حمید مجید. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰنؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعبؓ کی ملاقات ہوئی وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ
دوں جو میں نے حضور سے سنائے ہیں نے عرض کیا ضرور مرحمت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے یہ تو اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح
 بھیجیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو۔ (اللهم صل سے اخیر تک یعنی اے اللہ
 درود ڈھنچ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور ان کی آل پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا حضرت ابراهیم پر اونکی آل (اولاد) پر آے
 اللہ بیشک آپ ستودہ صفات اور بزرگ ہیں اے اللہ برکت نازل فرمایا (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اونکی آل (اولاد) پر جیسا
 کہ برکت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراهیم اور اونکی آل (اولاد) پر بیشک آپ ستودہ صفات اور بزرگ ہیں۔

حدیث مذکورہ کی دیگر روایات

یہ حدیث شریف بہت مشہور ہے اور حدیث کی سب کتابوں
میں بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہے اور بہت سے صحابہ کرامؓ سے
مختصر اور مفصل الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ علامہ سخاویؓ نے قول
بدیع میں اس کے بہت طرق اور مختلف الفاظ نقل کئے ہیں۔ وہ
ایک حدیث میں حضرت حسنؓ سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ جب
آیت شریف اَنَّ اللَّهَ وَمَلَكُوتَهِ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ نازل
ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! سلام تو ہم جانتے ہیں کہ وہ
کس طرح ہوتا ہے آپ ہمیں درود شریف پڑھنے کا کس طرح
عدل ہیں۔ اسی بناء پر حضرت کعبؓ نے اس کو ہدیہ سے تعبیر کیا۔

صحابہ کرامؓ ایک دوسرے کو

کس چیز کا ہدیہ پیش کرتے تھے

تشریح: ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے
ہاں رضی اللہ عنہم اجمعین مہماں اور دوستوں کے لئے بجائے
کھانے پینے کی چیزوں کے بہترین تھائے اور بہترین ہدیے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف حضور کی احادیث، حضور
کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضرات کے ہاں مادی
چیزوں سے کہیں زیادہ تھی جیسا کہ ان کے حالات اس کے شاہد
عمل ہیں۔ اسی بناء پر حضرت کعبؓ نے اس کو ہدیہ سے تعبیر کیا۔

درو د پڑھا کرو۔ اللہم صل علی مُحَمَّدٍ وَاخْ

ایک اور روایت میں عبد الرحمن بن بشیر سے نقل کیا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جل شانہ نے ہمیں صلوٰۃ وسلم کا حکم دیا ہے سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا آپ پر درود کیسے پڑھا کریں تو حضور نے فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم صل علی الٰ مُحَمَّدٍ مندِ احمد ترمذی، بیہقی وغیرہ کی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آیت شریفہ انَّ اللَّهَ وَمَلَكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْأَيْةً نازل ہوئی تو ایک صاحب نے آ کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! سلام تو ہمیں معلوم ہے۔ آپ پر درود کیسے پڑھا کریں تو حضور نے ان کو درود تلقین فرمایا۔

مختلف روایات میں مختلف الفاظ کی حکمت

اور بھی بہت سی روایات میں اس قسم کے مضمون ذکر کئے گئے ہیں اور درودوں کے الفاظ میں اختلاف بھی ہے جو اختلاف روایات میں ہوا ہی کرتا ہے جس کی مختلف وجہ ہوتی ہیں۔ اس جگہ ظاہریہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہؓ کو مختلف الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ کوئی لفظ خاص طور سے واجب نہ بن جائے۔ نفس درود شریف کا وجوب علیحدہ چیز ہے اور درود شریف کے کسی خاص لفظ کا وجوب علیحدہ چیز ہے کوئی خاص لفظ واجب نہیں۔

سب سے افضل درود شریف

یہ درود شریف جو اس فصل کے شروع میں نمبر اپنکھا گیا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور حنفیہ کے نزدیک نماز میں اسی کا پڑھنا اولیٰ ہے جیسا کہ علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمدؐ سے سوال کیا گیا کہ حضور پر درود شریف کن الفاظ سے پڑھے تو انہوں نے یہی درود شریف ارشاد فرمایا جو فصل کے شروع میں لکھا گیا اور یہ درود موافق ہے جو اس کے صحیحین (بخاری و مسلم) وغیرہ میں ہے۔ علامہ شامیؒ نے

حکم فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہم اجعل صلوٰۃک و برکاتک اللع پڑھا کرو۔ دوسری حدیث میں ابو مسعود بدربی سے نقل کیا ہے کہ ہم حضرت سعد بن عبادہؓ کی مجلس میں تھے کہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بشیرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے پس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں۔ حضور نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صل علی مُحَمَّدٍ وَ علی الٰ مُحَمَّدٍ اخْ یہ روایت مسلم وابوداؤد وغیرہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ”ہم اس کی تمنا کرنے لگے۔“ یہ ہے کہ ان حضرات صحابہؓ گرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو غایت محبت اور غایت احترام کی وجہ سے جس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تامل ہوتا یا سکوت فرماتے تو ان کو یہ خوف ہوتا کہ یہ سوال، کہیں منشاً مبارک کے خلاف تو نہیں ہو گیا، یا یہ کہ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تامل فرمانا پڑا۔ بعض روایات سے اسکی تائید بھی ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجرؓ نے طبری کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ حضور پر وحی نازل ہوئی۔ مندِ احمد وابن حبان وغیرہ میں ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابیؓ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ مجلس میں حاضر تھے۔ ان صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہمیں، معلوم ہو گیا جب ہم نماز پڑھا کریں تو اس میں آپ پر درود کیسے پڑھا کریں۔ حضور نے اتنا سکوت فرمایا کہ ہم لوگوں کی یہ خواہش ہونے لگی کہ یہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب نماز پڑھا کرو تو یہ

جواب دیئے گئے ہیں اور حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں دس جواب دیئے ہیں۔ کوئی عالم ہو تو خود کیھ لے، غیر عالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہے تو دریافت کر لے۔ سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قاعده اکثر یہ تو وہی ہے جو اور پر گذرالیکن بسا اوقات بعض مصالح سے اس کا الٹا ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کے درمیان میں اللہ جل شانہ کے نور کے متعلق ارشاد ہے مَثَلُ نُورٍ كِمْشُكُوٰ فِيهَا مِضَبَّاثُ الْأَيَةِ ترجمہ: اسکے نور کی مثال اس طاق کی ہے جسمیں، چراغ ہو، اخیر آیت تک، حالانکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں کے نور کیسا تھ کیا مناسبت۔ ۳: یہ بھی مشہور اشکال ہے کہ سارے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے درود کو کیوں ذکر کیا۔ اسکے بھی او جز میں کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی نوراللہ مرقدہ نے بھی زاد السعید میں کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ زیادہ پسندیدہ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل قرار دیا۔

چنانچہ ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ أَبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِهَذَا جُودُ الرَّحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگا۔ وہ محبت کی لائے کا ہوگا اور محبت کی لائے کی ساری چیزیں سب سے اوپر ہوتی ہیں۔ لہذا جو درود محبت کی لائے کا ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ لذیذ اور اونچا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب قرار دیا اور حبیب اللہ بنایا اور اسی لئے دونوں کا درود ایک دوسرے کے مشابہ ہوا۔ مشکلاۃ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے قصہ نقل کیا گیا ہے کہ صحابہؓ ایک جماعت انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیمؓ کو خلیل بنایا اور حضرت موسیؓ سے کلام کی اور حضرت عیسیؓ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں اور حضرت آدمؓ کو اللہ نے اپنا

یہ عبارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ شرح منیہ کی عبارت یہ ہے کہ درود موافق ہے اس کے جو صحیحین میں کعب بن عجرہ سے نقل کیا گیا ہے انتہی اور کعبؓ بن عجرہ کی یہی روایت ہے جو اور پر گذری۔ علامہ سخاویؓ کہتے ہیں کہ حضرت کعبؓ وغیرہ کی حدیث سے ان الفاظ کی تعین ہوتی ہے جو حضور نے اپنے صحابہؓ کو آیت شریفہ کے امثال امر میں سکھائے۔ اور بھی بہت سے اکابر سے اس کا افضل ہونا نقل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ علامہ سخاویؓ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے اس سوال پر کہ ہم لوگوں کو اللہ جل شانہ نے صلوٰۃ وسلام کا حکم دیا ہے تو کون سادر درود پڑھیں۔ حضور نے یہ تعلیم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ امام نوویؓ نے اپنی کتاب روضہ میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا تو اس درود کے پڑھنے سے قسم پوری ہو جائیگی۔

چند قابل وضاحت امور

اس کے بعد اس حدیث شریف میں چند فوائد قابل ذکر ہیں۔ ۱۔ اول یہ کہ صحابہؓ کرام کا یہ عرض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں اس سے مراد الحیات کے اندر السَّلَامُ عَلَيْکَ ایہا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ ہے۔ علامہ سخاویؓ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجرؓ کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ او جز میں امام نیہقی سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے اور آئمیں بھی متعدد علماء سے یہی مطلب نقل کیا گیا ہے۔ ۲: ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ تشییہ دی جاتی ہے مثلًا یوں کہا جائے کہ فلاں شخص حاتم طائی جیسا سمجھی ہے تو سخاوت میں حاتم کا زیادہ سمجھی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسکے بھی او جز میں کئی

اولین اور آخرین میں اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور بھی مععدد روایات سے حضور کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محبت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے اسی لئے ایک کے درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تشبیہ دی اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں ہیں اسلئے بھی من اشبه اباہ فما ظلم آبا و اجداد کے ساتھ مشابہت بہت مددوح ہے۔ مشکلاۃ کے حاشیہ پر معاویت سے اس میں ایک نکتہ بھی لکھا ہے وہ یہ کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حبیب اللہ کا الفاظ جامع ہے خلت کو بھی اور کلیم اللہ ہونے کو بھی بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء کے لئے ثابت نہیں اور وہ اللہ کا محبوب ہونا ہے ایک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

صفیٰ قرار دیا ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سُنی، بیشک ابراہیم، خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ نجی اللہ ہیں (یعنی کلیم اللہ) اور ایسے ہی عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں اور آدم اللہ کے صفیٰ ہیں لیکن باتیوں ہے غور سے سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا اور اس جھنڈے کے نیچے آدم اور سارے انبیاء ہونے گے اور اس پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنیوالا ہوں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا اور اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرّم ہوں

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔

ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

وَآخِرُ دُعْوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بہت بڑے ثواب والا درود شریف

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان یکتال بالمکیال الاوفي اذا صلی علينا اهل البیت فلیقل اللهم صل علی محمد بن النبی الامی وازو اجه امهات المؤمنین وذریته واهل بیته کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تواں کا ثواب بہت بڑے پیانہ میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَعْيَتْكَ) ترجمہ: اے اللہ درود ذیحیج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو نبی اُمی ہیں اور ان کی بیویوں پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے گھرانے پر جیسا کہ درود بھیجا آپ نے آل ابراہیم پر بیشک آپ ہی سزاوار حمد ہیں بُزرگ ہیں۔

”میرا محبوب جو بھی مکتب میں بھی نہیں گیا، لکھنا بھی نہیں سکھا وہ اپنے اشاروں سے سینکڑوں مدرسون کا معلم بن گیا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حرزین میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَالْهَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ میں نے خواب میں اس درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضور نے اس کو پسند فرمایا۔

بڑے پیانے میں ناپے جانے کا مطلب اس کا مطلب کہ بہت بڑے پیانہ میں ناپا جائے یہ ہے کہ عرب میں کھجوریں غلہ وغیرہ پیانوں میں ناپ کر بیچا جاتا تھا جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں وزن سے بُختی ہیں تو بہت بڑے پیانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہوا اور گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے درود کا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی کہنے کی وجہ تشریح: نبی اُمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے اور یہ لقب آپ کا تورات انجلیل اور تمام کتابوں میں جو آسمان سے اتریں ذکر کیا گیا ہے (کذافی المظاہر) آپ کو نبی اُمی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں جن کو شروع حدیث مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو اور یہ چونکہ اہم ترین مجذہ ہے کہ جو شخص لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ایسا فصح و بلیغ قرآن پاک لوگوں کو پڑھائے غالباً اسی مجذہ کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا ہے۔

تینے کہ ناکرده قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشرط ”جو میتم کہ اس نے پڑھنا بھی نہ سکھا ہو اس نے کتنے ہی مذہبوں کے کتب خانے دھو دیئے یعنی منسون کر دیئے۔“

نگار من کہ بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت بغزہ مسئلہ آموز صدمدرس ہد

جائے جب وہ ہم اہل بیت پر درود سمجھے تو یوں پڑھا کرے

اللَّهُمَّ اجْعِلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَّ كَاتِبَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
وَأَزْوَاجِهِ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى الْآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اور حسن
بصری سے نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کے حوض سے بھر پور پیالہ پینے وہ یہ درود پڑھا کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَاصْهَارِهِ وَانْصَارِهِ وَأشْيَاعِهِ
وَمُجَبِّيَّهِ وَأَمَتِيَّهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اس حدیث کو قاضی عیاض نے بھی شفایمں نقل کیا ہے

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِئِمًاً أَبَدًاً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ثواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی
ترازو میں وہی چیز تو لی جائیگی جس کی مقدار بہت زیادہ ہو گی،
تحوڑی مقدار بڑی ترازو میں تو لی بھی نہیں جا سکتی۔ جن ترازو
میں حمام کے لکڑے تو لے جاتے ہوں، ان میں تھوڑی چیزوں
میں بھی نہیں آ سکتی۔ پاسنگ میں رہ جائے گی۔ ملا علی قاریؒ نے
اور اس سے قبل علامہ سخاویؒ نے یہ لکھا ہے کہ جو چیزیں تھوڑی
مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ ترازوؤں میں شلا کرتی ہیں اور جو
بڑی مقداروں میں ہوا کرتی ہیں وہ عام طور سے پیانوں ہی میں
ناپی جاتی ہیں، ترازوؤں میں ان کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ علامہ
سخاویؒ نے حضرت ابو مسعودؓ سے بھی حضور کا یہی ارشاد نقل کیا
ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے بھی یہی نقل کیا
ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا درود بہت بڑے پیانے سے مایا

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔

ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل
و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کا حکم

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثرو امن الصلوٰۃ علی یوم الجمعة فانہ یوم مشهود تشهده الملائکہ و ان احدها نے یصلی علی الاعرضت علی صلوٰۃ حتیٰ یفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (رواہ ابن ماجہ)

تَنْجِيَّةُ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو اسلئے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اسمیں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق دیا جاتا ہے۔

دوسری روایات

علامہ سخاویؒ نے یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے۔ حضرت اوسؓ کے واسطے سے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے تمہارے افضل ترین لیام میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی دن میں حضرت آدم؏ کی پیدائش ہوئی۔ اسی میں ان کی وفات ہوئی اسی دن میں فتح (پہلا صور) اور اسی میں صعقة (دوسرا صور) ہو گا، پس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا آپ تو (قبر میں) بوسیدہ ہو چکے ہونگے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھاؤ۔ حضرت ابو امامہؓ کی حدیث سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ پس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہو گا وہ مجھ سے (قیامت کے دن) سب سے زیادہ قریب ہو گا۔ یہ مضمون کہ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور سے

وفات کے بعد بھی درود پیش ہوتا ہے

ملائی قاریؒ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا۔ پس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لئے دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں، اور اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے اور حضور کا یہ ارشاد کہ اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے ہر نبی مراد ہے اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو بھی دیکھا جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اصلوٰۃ والسلام کو بھی دیکھا جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اور یہ حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں صحیح ہے اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ رزق حقیقی مراد ہو اور وہی ظاہر ہے۔

اطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روپنہ اطہر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔

جمعہ کے دن درود کی فضیلت کی وجہ

حافظ ابن قیمؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ساری مخلوق کی سردار ہے اس لئے اس دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کی پیٹ میں اسی دن تشریف لائے تھے۔

علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس، اوس بن اوسؓ ابو مامہ، ابو الدڑاء، ابو مسعودؓ حضرت عمرانؓ کے صاحبزادے عبد اللہ وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہم سے نقل کی گئی ہے جن کی روایات علامہ سخاویؒ نے نقل کی ہیں۔

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِماً أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْغَلَقِ لِكُلِّهِمْ

سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو اسلئے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات اور روشن دن (یعنی جمعہ کے دن) میں کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اسلئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابن عمرؓ حضرت حسن بصریؓ حضرت خالد بن معدانؓ وغیرہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔

حضرت سلیمان بن حکیمؓ اور حضرت شیبانؓ کے واقعات سلیمان بن حکیمؓ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں! اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبانؓ کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبر

دعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! روز محرہ ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دُعَوَاتِنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَسِی سال کے گناہ معاف

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْلُوَةُ عَلَى نُورٍ عَلَى الصِّرَاطِ وَمِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْلُوَةُ عَلَى يَوْمِ الْجَمْعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذَنَوبُ ثَمَانِينَ عَامًا (ذکرہ السخاوی)

تَبَرَّجَهُ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا۔ میں صراط پر گذرنے کے وقت نور ہے اور جو شخص جمعہ کے دن اسی ۸۰ دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے اسی ۸۰ سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

وَرَسُولُكَ النَّبِيُّ الْأَمِيُّ۔ اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لے۔ انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلیوں پر گنے کی تغییب وارد ہوئی ہے اور ارشاد ہوا کہ انگلیوں پر گنا کرو اسلئے کہ قیامت میں ان کو گویا یہی دی جائیگی اور ان سے پوچھا جائیگا ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیاں وہ ہزار گناہ گنوائیں، جو ان سے زندگی میں کئے گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا ان سے گئی گئی ہیں۔ دارقطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی نے حسن بتایا ہے۔ حضرت علیؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سو ۰۰۰ امرتبہ درود پڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئیگی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صل علی مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى إِلَهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا۔ اس کے اسی ۸۰ سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسی سال کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا۔

دارقطنی کی ایک روایت میں حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی ۸۰ امرتبہ درود شریف پڑھے اس کے اسی ۸۰ سال کے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! درود کس طرح پڑھا جائے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ

اور اس کے مصدق میں علاوہ ان اقوال کے جو سخاویؒ سے گذرے ہیں کریم پر تشریف فرمائے کا اضافہ کیا ہے۔ ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ مقعد مقرب سے مراد مقامِ محمود ہے اس لئے کہ روایت میں ”یوم القيمة“ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں ”المقرب عندك في الجنة“ کا لفظ آیا ہے یعنی وہ ٹھکانہ جو جنت میں مقرب ہواں بناء پر اس سے مراد وسیلہ ہوگا جو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو مقام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک مقام تو وہ ہے جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے میدان میں عرشِ معلیٰ کے دائیں جانب ہوں گے جس پر اولین و آخرین سب کو رشک ہوگا اور دوسرا آپ کا مقام جنت میں جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث میں جسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت طویل خواب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ، جنت وغیرہ اور زنا کا رسود خوار وغیرہ لوگوں کے ٹھکانے دیکھے اس کے اخیر میں ہے کہ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے ایک گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین اور بہتر مکان میں نہیں دیکھا تھا، اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان عورتیں اور بچے تھے اس کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے وہ ایک درخت پر لے گئے وہاں ایک مکان پہلے سے بھی بڑھایا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلا مکان عام مسلمانوں کا ہے اور یہ شہداء کا۔ اسکے بعد انہوں نے کہا ذرا اور سر اٹھائے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر سانظر آیا۔ میں نے کہا کہ میں اسکو بھی دیکھوں۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جب پوری ہو جائیگی جب آپ اس میں تشریف لے جائیں گے۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں بحوالہ درمختار اصحابیٰ سے بھی حضرت انسؓ کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ شامیؒ نے اس میں طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں۔

درود شریف نامقبول نہیں ہوتا

شیخ ابو سلیمان دارالٹیؒ سے نقل کیا ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود ہونے کا احتمال ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے اور بھی بعض صوفیہ سے یہی نقل کیا ہے۔

يَارَبِ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ حَمِيرُ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کرنیوالا درود شریف

حضرت رویفع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں جو شخص اس طرح کہے۔ اللہم صل علی محمد و آنزله المقادِ المقربِ عندك يوم القيمة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

المقادِ المقرب کیا ہے

درود شریف کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے ”اے اللہ آپ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود بھیجنے اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو۔“ علماء کے مقعد مقرب یعنی مقرب ٹھکانے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ محتمل ہے کہ اس سے وسیلہ مراد ہو یا مقامِ محمود یا آپ کا عرش پر تشریف رکھنا یا آپ کا وہ مقام عالی جو سب سے اعلیٰ وارفع ہے جو زمین میں لکھا ہے کہ مقعد کو مقرب کے ساتھ اس لئے موصوف کیا ہے کہ جو شخص اس میں ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے اس وجہ سے گویا اس مکان ہی کو مقرب قرار دیا

کیسی آسان چیز پر اپنی سفارش کا وعدہ اور وعدہ بھی ایسا موکد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس کی سفارش واجب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کس قدر خسارہ کی بات ہے۔ لغویات میں اوقات ضائع کرتے ہیں، فضول با توں بلکہ غیبت وغیرہ گناہوں میں قیمتی اوقات کو بر باد کرتے ہیں۔ ان اوقات کو درود شریف میں اگر خرچ کیا جائے تو کتنے فوائد حاصل ہوں۔

يَارِبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اللَّهُ اللَّهُ لَوْلَتْ كَيْ جَاءَيْ هَيْ

درود شریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب ہونے کا وعدہ کسی قیدی یا مجرم کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم کے یہاں فلاں شخص کا اثر ہے اور اس کی سفارش حاکم کے یہاں بڑی وقوع ہوتی ہے تو اس سفارشی کی خوشامد میں کتنی دوڑ دھوپ کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کونسا ایسا ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کا مجرم نہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارشی جو اللہ کا حبیب سارے رسولوں اور تمام مخلوق کا سردار وہ

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار را ہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے، ہمیں بھی محسن اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! روز محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دُعَوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وہ درود جس کا ثواب ستر فرشتے ہزار دن تک لکھتے رہتے ہیں

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال جزی اللہ عنا محمد اما هوا هله اتعب سبعین کاتبا الف صباح (رواہ الطبرانی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا کرے جزی اللہ عنا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ ترجمہ: اللہ جل شانہ جزا دے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو، ہم لوگوں کی طرف سے جس بد لے کے وہ مستحق ہیں۔ ”تو اس کا ثواب ستر ۰۰۰ فرشتوں کو ایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے گا۔

أَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَى جَمِيعِ أَخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جو شخص سات مجموع تک ہر جمعہ کو سات مرتبہ اس درود کو پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک علامہ جوابن المشتہر کے نام سے مشہور ہیں یوں کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو اس سب سے زیادہ افضل ہو جواب تک اسکی مخلوق میں سے کسی نے کی ہو اولین و آخرین اور ملائکہ مقریبین، آسمان والوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہو اور اسی طرح یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود پڑھے جو اس سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ شانہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس سب سے افضل ہو جو کسی نے مانگی ہو تو وہ یہ پڑھا کرے۔ اللہُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَأَفْعُلْ بِنَامَةَ أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ جس کا ترجمہ یہ ہے ”اے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے، پس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہے اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تیری شان کے مناسب ہے تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے ڈراجائے اور مغفرت کرنے والا ہے۔“

لشیخ: نزہۃ الجالس میں بروایت طبرانی حضرت جابر کی حدیث سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ درود پڑھا کرے اللہُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ وَاجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ وہ اس کا ثواب لکھنے والوں کو ایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالے گا کام مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہزار دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ بعض علماء نے ”جس بد لے کے وہ مستحق ہیں“ کی جگہ ”جو بد لہ اللہ کی شان کے مناسب ہے“ لکھا ہے، یعنی جتنا بدلہ عطا کرنا تیری شایان شان ہو وہ عطا فرما اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب بالخصوص اپنے محوب کیلئے ظاہر ہے کہ بے انتہاء ہوگا۔ حضرت حسن بصریؓ سے ایک طویل درود شریف کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے درود شریف میں یہ الفاظ بھی پڑھا رتے تھے۔ وَاجْزِهِ عَنَّا خَيْرِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ ”اے اللہ حضور کو ہماری طرف سے اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائیے جتنا کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمایا۔“ ایک اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے جو شخص یہ الفاظ پڑھے اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضاً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ نَالِذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مِنْ

مُحَمَّدٌ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ۔ ابوالفضلؓ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ابوالفضلؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ غلہ دینا چاہا تو اُس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بیچنا نہیں (یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا) ابوالفضلؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس شخص کو تھیں دیکھا (بدیع)

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًاً أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

روزانہ سومرتہ درود پڑھنے والے کی طرف
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام

ابوالفضل قومیؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اُس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ تو حضور نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا۔ جب تو ہمان جائے تو ابوالفضل بن زیر کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر روزانہ سو ۱۰۰ امرتہ یا اس سے بھی زیادہ یہ درود پڑھا کر تا ہے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى الِّ

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار را ہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اذان کے بعد درود شریف اور وسیلہ کی دعاء

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلوا على صلوة صلي الله عليه عشرات ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تبغي الالعبد من عباد الله وارجوا ان اكون انا هو فمن سال لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سن کرو تو جو الفاظ مؤذن کہہ وہی تم کہا کرو۔ اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو اس لئے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اُس پر دس دفعہ درود بھیجتے ہیں پھر اللہ جل شانہ سے میرے لئے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں پس جو شخص میرے لئے اللہ سے وسیلہ کی دعا کریگا اُس پر میری شفاعت اتر پڑے گی۔

پر درود پڑھا کر تو میرے لئے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ! وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہونگا۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے اصلی معنی لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے۔ لیکن اس جگہ ایک عالی درجہ مراد ہے جیسا کہ خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے اور قرآن پاک کی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں ایک تو یہ کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اور پر گزرا۔ حضرت ابن عباسؓ مجاهد، عطا وغیرہ سے یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ قادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے۔ واحدؒ بغدادیؒ زخیریؒ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قربات ہو یا کوئی عمل، اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو سل حاصل کرنا بھی داخل ہے اس اور علامہ جزریؒ نے حسن حسین میں آداب دعا میں لکھا ہے وَأَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ

وسیلہ کی دعاء مانگنے پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے
تشریح: اتر پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ محقق ہو جائے گی۔ اس لئے کہ بعض روایات میں اسکی جگہ یہ ارشاد ہے کہ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائیگی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اذان سنبھلے اور یہ دعا پڑھے اللہُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اتِّمْ حَمْدَ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَابْعُثْهُ مَقَاماً مَحْمُودًا إِلَيْهِ وَعَدْتَهُ اس کے لئے میری شفاعت اتر جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداءؓ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنبھلے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے اللہُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاتِّهِ سُؤْلَةَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اور حضور اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ پاس والے اس کو سنبھلتے تھے۔

وسیلہ کیا چیز ہے

اور بھی متعدد احادیث سے علامہ سخاویؒ نے یہ مضمون نقل کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب تم مجھ

گے پھر مجھے ایک سبز جوڑا پہنائیں گے پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہیں، پس یہی مقامِ محمود ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ”پھر میں کہوں گا“ سے مراد وہ حمد و ثناء ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت سے پہلے کہیں گے اور مقامِ محمود ان سب چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے جو اس وقت میں پیش آئیں گی انتہی۔ حضور کے اس ارشاد کا مطلب کہ میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہیں گے حدیث کی کتابوں بخاری، مسلم، شریف وغیرہ میں شفاعت کی طویل حدیث میں حضرت انسؓ سے نقل کیا گیا ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں گا تو سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ جل شانہ مجھے سجدہ میں جب تک چاہیں گے پڑا رہنے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کا ارشاد ہو گا۔ محمد سر اٹھاؤ۔ اور کہو، تمہاری بات سنی جائیگی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا۔ پھر اپنے رب کی وہ حمد و ثناء کروں گا جو اس وقت میرارب مجھے الہام کرے گا۔ پھر میں امت کے لئے سفارش کروں گا۔ بہت لمبی حدیث سفارش کی ہے جو مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے۔

ہاں ہاں اجازت ہے تجھے آج عزت ہے تجھے زیبا شفاعت ہے تجھے بے شک یہ ہے حصہ ترا
یتنبیہ: یہاں ایک بات قابلٰ لحاظ ہے کہ اوپر کی دعاء میں **الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ** کے بعد **وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ** کا لفظ بھی مشہور ہے۔

محمد شین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اس حدیث میں ثابت نہیں۔
بالتہ بعض روایات میں جیسا کہ حسن حسین میں بھی ہے۔ اس کے اخیر میں **إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَادَ** کا اضافہ ہے۔

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
وَأَخْرُدَعُونَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تعالیٰ بِأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ۔ یعنی تو سل حاصل کرے اللہ جل شانہ کی طرف اس کی انبیاء کے ساتھ جیسا کہ بخاری، منڈ بزار اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیسا کہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے علامہ سخاویؒ کہتے ہیں اور دوسرا قول آیت شریفہ میں یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے یعنی اللہ کے محبوب بنو جیسا کہ ماوردیؒ وغیرہ نے ابو زید سے نقل کیا ہے۔

مقامِ فضیلت اور مقامِ محمود

اور حدیث پاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبہ عالیہ ہے جو ساری مخلوق سے اوپر ہوا اور احتمال ہے کوئی اور مرتبہ مراد ہو یا وسیلہ کی تفسیر ہو۔ اور مقامِ محمود وہی ہے جسکو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے غسی آن یعشعک ربک مقاماً مَحْمُودًا۔ ترجمہ: ”آمید ہے کہ پہنچا میں گے آپ کو آپ کے رب مقامِ محمود میں۔“ مقامِ محمود کی تفسیر میں علماء کے چند اقوال ہیں یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر گواہی دینا ہے اور کہا گیا ہے کہ حمد کا جھنڈا جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائیگا مراد ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو قیامت کے دن عرش پر اور بعض نے کہا گری پر بٹھانے کو کہا ہے۔
ابن جوزیؒ نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد شفاعت ہے اس لئے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین و آخرین سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔ علامہ سخاویؒ استاذ حافظ ابن حجر کے اتباع میں کہتے ہیں، ان اقوال میں کوئی منافات نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ عرش و کرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو اور جب حضور وہاں تشریف فرمائے جائیں تو اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا اعطافرمائے اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں۔
جان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالکؓ سے حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں

مسجد میں آتے جاتے ہوئے سلام بھیجا

عن ابی حمید او ابی اسید الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احد کم فی المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل اللهم افتح لی ابواب رحمتک و اذا خرج من المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل اللهم افتح لی ابواب فضلك (ابو داؤد والنسائی)

ترجیح: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا کرے تو نبی (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرے پھر یوں کہا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک "اے میرے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے" اور جب مسجد سے نکلا کرے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرے اور یوں کہا کرے اللہم افتح لی ابواب فضلك "اے اللہ میرے لئے اپنے فضل (یعنی روزی) کے دروازے کھول دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل

علامہ سخاویؒ نے حضرت علیؓ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا کر تو حضور پر درود بھیجا کرو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود سلام بھیجتے محمد پر (یعنی خود اپنے اوپر) اور پھر یوں فرماتے۔

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
اور جب مسجد سے نکلتے تب بھی اپنے اوپر درود سلام بھیجتے اور فرماتے۔

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
حضرت انسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھا کرتے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور جب باہر تشریف لاتے تب بھی یہ پڑھا کرتے
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مسجد میں جانے کے وقت

رحمت کے دروازوں کا کھلنا

تشریح: مسجد میں جانے کے وقت رحمت کے دروازے کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کیلئے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ محتاج ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کو قبول فرمائے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے دروازے رحمت کے کھول بسب برکت اس مکان شریف کے یا بسب توفیق دینے نماز کی اس میں یا بسب کھولنے حقائق نماز کے اور مراد فضل سے رزق حلال ہے کہ بعد نکلنے کے نماز سے اس کی طلب کو جاتا ہے اہا اور اس میں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ جمعہ میں وارد ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

شریف کی روایت سے مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعاء نقل کی ہے

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوْجَهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ
الْقَدِيرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کے ذریعہ سے جو بڑی عظمت والا ہے اور اسکی کریم ذات کے ذریعہ سے اور اسکی قدیم بادشاہت کے ذریعہ سے شیطان مردود کے حملہ سے۔“ حسن حسین میں تواتر ہی ہے۔ لیکن ابو داؤد میں اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یوں کہتا ہے کہ مجھ سے تو شخص شام تک کے لئے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد صاحب حسن مختلف احادیث سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَہے۔

ایک اور حدیث میں وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ہے اور ایک حدیث میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ پڑھے اور جب مسجد سے نکلنے لگے جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اور ایک حدیث میں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْصِنْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسِلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

وَآخِرُ دُعَوْنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں اور یہ دعا پڑھا کریں اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنَا وَ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور جب نکلا کریں جب بھی یہی دعا پڑھا کریں اور أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ کی جگہ أَبْوَابَ فَضْلِكَ۔

دیگر روایات

حضرت ابو ہریرہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں جایا کرے تو حضور پر سلام پڑھا کرے اور یوں کہا کرے

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور جب مسجد سے نکلا کرے تو حضور پر سلام پڑھا کرے اور یوں کہا کرے

اللَّهُمَّ اغْصِنْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۔

حضرت کعب نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں، انہیں بھولنا مت ایک یہ کہ جب مسجد میں جائے تو حضور پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

اور جب باہر نکلے (مسجد سے) تو یہ دعا پڑھا کر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۔

اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین سے یہ دعا میں نقل کی گئی ہیں۔

مسجد میں جانے کی دعاء

صاحب حسن حسین نے مسجد میں جانے کی اور مسجد سے نکلنے کی متعدد دعائیں مختلف احادیث سے نقل کی ہیں، ابو داؤد

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے درود شریف

قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ صَلَّى عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُوْرِ (قول بدیع)
 ترجمہ: ”جو شخص روح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ارواح میں اور آپ کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔“

هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضِي جو شخص اس درود شریف کو طاق عدد کے موافق پڑھیگا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کریگا اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ۔

مختلف بزرگوں کے مختلف عمل

حضرت تھانوی رحمہ اللہزادہ السعید میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ تراویشیں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشق اکتوپ کو خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوتی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اہل السعادت میں لکھا ہے کہ شبِ جمعہ میں دور رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں گیارہ ابا آیت الکری اور گیارہ بار قل ہوا اللہ اور بعد سلام سو ۱۰۰ اباریہ درود شریف پڑھے۔ ان شاء اللہ تین ۳ جمعے نہ گذرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درود شریف یہ ہے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِالنَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَالْهُ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمْ دیگر شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دو ۲ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے پھیس ۲۵ بار قل ہوا اللہ اور بعد

تشریح: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا کو نا مسلمان ایسا ہوگا جس کونہ ہو لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنا میں بڑھتی رہتی ہیں اور اکابر و مشائخ نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کئے ہیں کہ ان پر عمل سے سید الکوینین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ مَنْ صَلَّى عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُوْرِ ”جو شخص روح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ارواح میں اور آپ کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔“ اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پئے گا اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرمادیں گے۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ ابوالقاسم بستیؒ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے مگر مجھے اب تک اس کی اصل نہیں ملی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ یہ درود پڑھے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمْرَتَنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا

عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں میں دو دور کعت پر سلام پھیرتا رہا کر اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا کر عشاء کے بعد بھی بغیر بات کئے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر دو رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سات کے مرتبہ قل ہو اللہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کر جس میں سات دفعہ استغفار سات کے مرتبہ درود شریف اور سات دفعہ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ یا حَسْنٌ یا قَيْوُمٌ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ یا إِلَهُ الْأُولَئِنَ وَالآخِرِينَ یا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ یا اللَّهُ یا اللَّهُ۔ پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ۔ پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہ۔ جو شخص یقین اور نیک نیت کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے۔ وہاں انبیاء کرام اور سید الکوئین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا۔ اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضرت پیر ان پیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کئے ہیں، علامہ دمیری نے خیوة الحکیم میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچہ پر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پینتیس ۳۵ مرتبہ لکھے اور اس پرچہ کو اپنے ساتھ رکھے اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت میں مد فرماتا ہے اور شیاطین کے وساوس سے

سلام کے یہ درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہو، وہ یہ ہے، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيِّ۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت ستر ۰۷ بار اس درود شریف کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْرِيْرِ اُنَوَارِكَ وَمَعْدَنِ اُسَارِكَ وَلِسَانِ حَجَّتِكَ وَعُرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ حَضَرَتِكَ وَطِرَازِ مُلِكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانٌ عَيْنُ الْوَجُودِ وَالسَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنُ أَعْيَانٍ خَلْقُكَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ صَلَوَةُ قُدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبَقَّى بِيَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَوَةُ تُرْضِيَكَ وَتُرْضِيَهُ وَتَرْضِيَ بِهَا عَنَّا يَارَبُّ الْعَلَمِينَ۔ دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لئے شیخ نے لکھا ہے۔ اللَّهُمَّ رَبُّ الْحِلَّ وَالْحِرَامِ وَرَبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبُّ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ أَبْلَغْ لِرُوحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مِنَا السَّلَامَ۔ مگر بڑی شرط اس دولت کے ھوں میں قلب کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری و باطنی مصیبتوں سے بچنا ہے۔ انتہی۔

حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہو عمل

حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب نواور میں بہت سے مشائخ تصور اور ابدال کے ذریعہ سے حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ السلام سے متعدد اعمال نقل کئے ہیں اگرچہ محدثانہ حیثیت سے اُن پر کلام ہے لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور جدت کی ضرورت ہو، مبشرات اور منامات ہیں۔ مجملہ ان کے لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی

ای سے پہنچ لیا جاوے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہو گی کیا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورۃ زائر معنی مہجور اور بعضے صورۃ مہجور جیسے اولیس قرنی۔ اولیس قرنی معنی قرب سے مسروڑ تھے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی، لیکن اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جہنمی رہے اور حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں۔

اکابر صوفیہ میں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے ان کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اُن سے ملنے وہ ان سے اپنے لئے دعاۓ مغفرت کرائے۔ ایک روایت میں حضرت عمرؓ سے نقل کیا گیا کہ حضور نے اُن سے حضرت اولیسؓ کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو ضرور پُرا کرے۔ تم اُن سے دعاۓ مغفرت کرانا (اصابہ)

گو تھے اولیسؓ دور مگر ہو گئے قریب
نوجہل تھا قریب مگر دور ہو گیا

اس حدیث کی مزید تشریح اگلے درس میں آئے گی ان شاء اللہ

حافظت فرماتا ہے اور اگر اس پر چکر روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے۔

اصل چیز اطاعت ہے

خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے لیکن دوام مقابلی لحاظ ہیں۔ اول وہ جس کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے نشر الطیب میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں ”جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لئے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظیمے دولتِ کبریٰ ہے اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلاح دخل نہیں محض وحی چیز ہے۔

ہزاروں کی عمر میں اس حسرت میں ختم ہو گئیں۔ البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف و مکال اتباع سنت و غلبہ محبت پر یہ مقام مل جاتا ہے لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں اسلئے اس کے نہ ہونے سے مغموم و محروم نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لئے اسی میں حکمت و رحمت ہے۔ عاشق کو رضاۓ محبوب سے کام خواہ وصل ہوتب، تاجر ہوتب عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ ”فرق وصل کیا ہوتا ہے محبوب کی رضاۂ ھونڈ کے محبوب سے اس کی رضاۓ کے سواتمنا کرنا ظلم ہے۔“

دُعا کیجئے

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور

چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً آپ ہی کو دیکھا

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ صَلَّی عَلَیِ رُوحُ مُحَمَّدٍ فِی الْأَرْوَاحِ وَعَلَیِ
جَسَدِهِ فِی الْأَجْسَادِ وَعَلَیِ قَبْرِهِ فِی الْقُبُوْرِ (قول بدیع)

تَرْجِیْحُ: ”جو شخص روحِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ارواح میں اور آپ کی قبر
مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا۔“

محاذِ تعبیر ہے، شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں چاہے
کتنا ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب ہو۔ مثلاً کوئی شخص دیکھے کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجائز کام کرنے کی
اجازت یا حکم دیا تو وہ درحقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے جیسا کہ
کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی بُرے کام کرو کے اور وہ مانتا ہو تو اس
کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کراور کر۔ یعنی اس کا مزہ چکھاؤ
نگا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا جس کو تعبیر کہا جاتا
ہے یہ بھی ایک دقيق فن ہے۔ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں لکھا
ہے۔ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس سے ایک فرشتہ
نے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلاں دوست کے ذریعہ تجھے زہر
پلانا چاہتی ہے۔ ایک صلуб نے اس کی تعبیر یہ دی اور وہ صحیح تھی
کہ تیری بیوی اس فلاں سے زینا کرتی ہے۔ اسی طرح اور بہت
سے واقعات اس قسم کے فنِ تعبیر کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ مظاہر
حق میں لکھا ہے کہ امام نوویؓ نے کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ جس نے
حضور کو خواب میں دیکھا اس نے آنحضرت ہی کو دیکھا خواہ آپ
کی صفت معروفة پر دیکھا ہو یا اس کے علاوہ، اور اختلاف اور
تفاوت صورتوں کا باعتبار کمال و نقصان دیکھنے والے کے ہے۔
جس نے حضرت کو اچھی صورت میں دیکھا بسبب کمال دین اپنے
کے دیکھا اور جس نے برخلاف اس کے دیکھا بسبب نقصان
اپنے دین کے دیکھا۔ اسی طرح ایک نے بُذر ہادیکھا ایک نے

تشریح: اس حدیث کے بارہ میں کچھ تفصیل گذشتہ درس میں
بیان ہو چکی ہے مذکورہ بالا حدیث میں دوسرا امر قابل تنبیہ یہ ہے
کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
اس نے یقیناً اور قطعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت
کی۔ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان
کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی کہ وہ خواب میں آ کر
کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر
کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ میں نبی ہوں یا خواب دیکھنے والا شیطان کو
نعواز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے، اس لئے یہ تو ہو ہی
نہیں سکتا۔ لیکن اسکے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی
اصلی ہیئت میں نہ دیکھے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی
ہیئت اور حیلے میں دیکھے جو شانِ اقدس کے مناسب نہ ہو تو وہ
دیکھنے والے کا قصور ہو گا جیسا کہ کسی شخص کی آنکھ پر سرخ یا سبز یا
سیاہ عینک لگادی جائے تو جس رنگ کی آنکھ پر عینک ہو گی اسی
رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح جھینگے کو ایک کے دونوں نظر
آتے ہیں۔ اگر نئے نامم پیس کی لمبائی میں کوئی شخص اپنا چہرہ
دیکھنے تو اتنا مبالغہ آئے گا کہ حد نہیں۔ اور اگر اس کی چوڑائی میں
اپنا چہرہ دیکھنے تو ایسا چوڑا نظر آئے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے
چہرہ پر ہنسی آجائے گی۔ اسی طرح سے اگر خواب میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعتِ مطہرہ کے خلاف سُنے تو وہ

اشکال کے علماء سے استفتاء کیا کہ حقیقتِ حال کیا ہے۔ ہر ایک عالم نے محمل اور تاویل اس کی بیان کی۔ ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متین سنت، ان کا نام شیخ محمد عرات تھا۔ جب وہ استفتاً ان کی نظر سے گزرا، فرمایا گئی نہیں جس طرح اس نے سنائے ہے۔ آنحضرت نے اس کو فرمایا کہ لا تشرب الْخَمْر، یعنی شراب نہ پیا کر۔ اس نے لا تشرب کو اشرب سنایا۔ حضرت شیخ (عبد الحق) نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے حضرت شیخ نے فرمایا کہ لا تشرب کو اشرب سن لیا محتمل ہے لیکن اگر اشرب الْخَمْر ہی فرمایا ہو یعنی پی شراب تو یہ دمکی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ لبجھ کے فرق سے اس قسم کی چیزوں میں فرق ہو جایا کرتا ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًاَ أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْغَلِيقِ لَكُمْ

جو ان اور ایک نے راضی اور ایک خفا۔ یہ تمام تینی ہے اور اختلاف حال دیکھنے والے کے پس دیکھنا آنحضرت کا گویا کسوٹی ہے معرفت احوال دیکھنے والے کے اور اس میں ضابطہ مفیدہ ہے سالکوں کے لئے کہ اس سے احوال اپنے باطن کا معلوم کر کے علاج اس کا کریں۔ اور اسی قیاس پر بعض ارباب حکمین نے کہا ہے کہ جو کلام آنحضرت سے خواب میں سنئے تو اس کو سُنْتَتِ قویہ پر عرض کرے اگر موافق ہے تو حق ہے اور اگر مخالف ہے تو بسب خلل سامدہ اس کی کے ہے پس روایائے ذات کریمہ اور اس چیز کا کہ دیکھی یا سنی جاتی ہے حق ہے اور جو تقاوت اور اختلاف سے ہے تجھے سے ہے۔ حضرت شیخ علی متقی ظفیر کرتے تھے کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے آنحضرت کو خواب میں دیکھا کہ اس کو شراب پینے کے لئے فرماتے ہیں۔ اس نے واسطے رفع اس

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دُعَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درو در شریف نہ بھینے والے کیلئے وعید

عن کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقی درجہ قال امین ثم ارتقی الثانية فقال امین (رواہ الحاکم) ترجیحہ: حضرت کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضور نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب تیرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسوقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے (جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اسکی مغفرت نہ ہوئی۔ میں کہا آمین، پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین جب میں تیرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جسکے سامنے اسکے والدین یا اُن میں سے کوئی ایک بڑھا پے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں میں نے کہا آمین۔

کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے۔ جب پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو شخص رمضان کو پاوے اور اسکی مغفرت نہ کی جائے اللہ اس کو ہلاک کرے میں کہا آمین اور وہ شخص کہ جس نے ماں باپ یا اُن میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا ہو (یعنی ان کی ناراضی کی وجہ سے) اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین، اور جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آؤے اور وہ درود نہ پڑھے اللہ اس کو ہلاک کرے میں نے کہا آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک درجہ پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجہ پر چڑھ کر فرمایا آمین، پھر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین

تشریح: ”اس حدیث میں حضرت جبریل نے تین بددعا میں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمادیں اور ان براہیوں سے محفوظ رکھیں ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔

درمنثور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ آمین کہو تو حضور نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی نے اس مضمون کی متعدد روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت مالک بن حوریث سے بھی ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی

کاملیا میٹ کر دے میں نے کہا آمین۔ اسی طرح والدین اور رمضان کے قصہ میں بھی نقل کیا۔ حضرت ابوذرؓ حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی ان مضاہین کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں بھی یہ اضافہ ہے کہ ہر مرتبہ میں مجھ سے حضرت جبریلؓ نے کہا کہ کہو آمین جس پر میں نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمرة سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ نیز عبد اللہ بن الحارثؓ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اسکی بدُعاء و دفعہ ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے پھر ہلاک کرے۔ حضرت جابرؓ نے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بد بخت ہے اور بھی اس قسم کی وعدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخاویؒ نے ان وعدوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرمبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وارد ہوئی ہیں مختصر الفاظ میں جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر ہلاکت کی بدُعاء ہے اور شقاوت کے حاصل ہونے کی خبر ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ بخیل ہے اور کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے اس کے بارہ میں کئی طرح کی وعدیں ذکر کی ہیں اور یہ کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کا دین (سلم) نہیں، اور یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد علامہ سخاویؒ نے ان سب مضاہین کی روایات ذکر کی ہیں۔

يَارِبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ لِكُلِّهِمْ

تیرے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے آمین کس بات پر فرمائی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبریلؓ آئے تھے اور انہوں نے کہا (زمیں پر) تاک رکڑے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا اُن میں سے ایک کا زمانہ پایا ہوا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو، میں نے کہا آمین۔ اور تاک رکڑے وہ شخص (یعنی ذلیل ہو) جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو، میں نے کہا آمین، اور تاک رکڑے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین۔

حضرت جابرؓ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اسکی بھی منبر پر تین مرتبہ آمین آمین کے بعد صحابہؓ کے سوال پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو میرے پاس جبریلؓ آئے اور انہوں نے کہا بد بخت ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا بد بخت ہو جیو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا اُن میں سے کسی ایک کو پایا ہوا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو، میں نے کہا آمین، پھر کہا بد بخت ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو، میں نے کہا آمین۔ حضرت عمر بن یاسرؓ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں حضرت جبریلؓ کی ہر بدُعاء کے بعد یہ اضافہ ہے کہ جبریلؓ نے مجھ سے کہا امین کہو۔ حضرت ابن مسعودؓ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہ منبر والا قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں اور سخت الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریلؓ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں داخل ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے اور اس

بخیل کون ہے؟

عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی (رواہ النسائی)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

کے بخیل کے لئے یہ کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے پاس کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت حسن بصریؓ کی روایت سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کے بخیل کے لئے یہ کافی ہے کہ میں اس کے سامنے ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے صحابہؓ سے فرمایا۔ میں تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی بتاؤں؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبَكَ حَيْرِ الْعَالَقِ لِكُلِّهِمْ

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ بھیجنا ظلم ہے

”حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

ف: یقیناً اس شخص کے ظلم میں کیا تردد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی سوانح عمری ”تذکرة الرشید“ میں لکھا ہے کہ حضرت عموماً متولین کو درود شریف پڑھنے کی تعلیم فرماتے تھے کہ کم سے کم تین سو سو مرتبہ روزانہ پڑھا جائے اور اتنا نہ ہو سکے تو

تشریح: حدیث بالا کا مضمون بھی بہت سی احادیث میں بہت سے صحابہؓ سے نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاویؓ نے حضرت امام حسنؓ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آدمی کے بخیل کے لئے یہ کافی ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت امام حسینؓ سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ بخیل اور پورا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت انسؓ سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ میں تم کو سب بخیلوں سے زیادہ بخیل بتاؤں۔ میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز بتاؤں وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت عائشہ سے ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جس کے اخیر میں حضور کا ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کیلئے جو مجھے قیامت میں نہ دیکھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جو آپ کی زیارت نہ کرے؟ حضور نے فرمایا بخیل۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا بخیل کون؟ حضور نے فرمایا جو میراث نہ اور درود نہ بھیجے۔ حضرت جابرؓ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے آدمی

رہیگی۔ ایک اور حدیث میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں پیٹھتی ہے اور اس مجلس میں حضور پر درود نہ ہو تو وہ مجلس ان پر وبال ہوتی ہے۔ حضرت ابو مامہؓ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ لوگ کسی مجلس میں پیٹھیں پھر اللہ کے ذکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں تو وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہے حضرت ابو سعید خدراؓ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں پیٹھیں اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے مجلس برخاست کریں تو ان کو حسرت ہو گئی چاہے وہ جنت ہی میں (اپنے اعمال کی وجہ سے) داخل ہو جائیں بوجہ اس ثواب کے جس کو وہ دیکھیں گے یعنی اگر وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں تب بھی ان کو درود شریف کا ثواب دیکھ کر اس کی حسرت ہو گی کہ ہم نے اس مجلس میں درود کیوں نہ پڑھا تھا۔ حضرت جابرؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے اٹھیں۔ تو ایسا ہے جیسا کسی سڑے ہوئے مردار جانور پر سے اٹھے ہوں یعنی ایسی گندگی محسوس ہو گئی جیسے کسی سڑے ہوئے جانور کے پاس بیٹھ کر دماغ سڑ جاتا ہے۔

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ایک تبع میں تو کمی نہ ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے پھر آپ پر درود بھینجنے میں بھی بخل ہو تو بڑی بے مرتوتی کی بات ہے۔ درود شریف میں زیادہ تر پسند وہ تھا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ الفاظ صلوٰۃ وسلام جواحدیث میں منقول ہیں۔ باقی دوسروں کے مؤلفہ درود تاج، لکھی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہ تھے بلکہ بعض الفاظ کو دوسرے معنی کا موہم ہونے کے سبب خلاف شرع فرمادیتے تھے۔ علامہ سخاویؓ فرماتے ہیں کہ جفاء سے مراد برسوں کا چھوڑنا ہے اور طبیعت کی حقیقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوری پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پر درود نہ ہو وہ وبال ہو گی

حضرت ابو ہریرہؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو قوم کسی مجلس میں پیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر کرو اور اس کے نبی پر درود نہ ہو تو یہ مجلس ان پر قیامت کے دن ایک وبال ہو گی۔ پھر اللہ کو اختیار ہے کہ ان کو معاف کر دے یا عذاب دے۔

ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں پیٹھتی ہے پھر وہ اللہ کے ذکر اور نبی پر درود سے پہلے مجلس برخاست کر دیں، تو ان پر قیامت تک حسرت

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھر تے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَأَخِرُّ دُعَوَاتِنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف بھیجنے سے دعاء قبول ہوتی ہے

عن فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل
رجل فصلی فقال اللهم اغفر لی وارحمنی (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت فضالہؓ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتھے ایک صاحب داخل ہوئے اور نماز پڑھی پھر اللہم اغفر لی وارحمنی کے ساتھ دعا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونمازی تو نے جلدی کردی جب تو نماز پڑھے تو اول تواللہ جل شانہ کی حمد کر جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے۔ پھر مجھ پر درود پڑھ پھر دعا مانگ، حضرت فضالہؓ کہتے ہیں پھر ایک اور صاحب آئے انہوں نے اول اللہ جل شانہ کی حمد کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ حضور نے ان صاحب سے یہ ارشاد فرمایا اے نمازی اب دعا کر تیری دعاء قبول کی جائے گی۔

یا وضو کرتا ہے ورنہ پھینک دیتا ہے۔ مجھے اپنی دعا کے اول میں بھی کیا کردا وسط میں بھی آخر میں بھی۔ علامہ سناؤیؓ کہتے ہیں کہ مسافر کے پیالہ سے مراد یہ ہے کہ مسافر اپنا پیالہ سواری کے پیچھے لٹکایا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے دعا میں سب سے آخر میں نہ رکھو یہی مطلب صاحب اتحاف نے شرح احیاء میں بھی لکھا ہے کہ سوارا پنے پیالہ کو پیچھے لٹکا دیتا ہے یعنی مجھے اپنی دعا میں سب سے آخر میں نہ ڈال دو۔ حضرت ابن مسعودؓ نے نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اولًا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ ابتدأ کرے ایسی حمد و ثناء جو اس کی شایانِ شان ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگ۔ پس اقرب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گا اور مقصد کو پہنچ گا۔ حضرت عبد اللہ بن یسیرؓ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعا میں ساری کی ساری رُکی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی ابتداء اللہ کی تعریف اور حضور پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت انسؓ سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رُکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حضرت علی

دعاء میں درود شریف کا مستحب ہونا
یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ سناؤیؓ کہتے ہیں کہ درود شریف دعا کے اول میں درمیان میں اور اخیر میں ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے استحباب پر اتفاق نقل کیا ہے کہ دعا کی ابتداء اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد و ثناء پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اسی پر ختم ہونا چاہیے۔ قلیشیؓ کہتے ہیں کہ جب تواللہ سے دعا کرے تو پہلے حمد کے ساتھ ابتداء کر پھر حضور پر درود بھیج اور درود شریف کو دعا کے اول میں دعا کے نیچے میں دعا کے اخیر میں کراور درود کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل کو ذکر کیا کر۔ اس کی وجہ سے تو مستحب الدعوات بنے گا اور تیرے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ حضرت جابرؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجنحکو سوار کے پیالے کی طرح سے نہ بناؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! سوار کے پیالے سے کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا اپنی حاجت سے فراغت پر برتن میں پانی ڈالتا ہے اس کے بعد اس کو اگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو پیتا ہے

حاجت بر اری کا مسنون عمل

حضرت عبد اللہ بن ابی اوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور باہر تشریف لائے اور یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ شانہ سے یا کسی بندے سے پیش آجائے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ جل شانہ کی حمد و شنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بصیحہ۔ پھر یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْلَكَ
مُوْجَبًا ثَرَحْمَتِكَ وَغَزَّأَتِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيَّةَ
مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ لَا تَدْعُ لِى ذَنْبًا
إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ
رِضَا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

نهیں کوئی معبد بجز اللہ کے جو بڑے حلم والا ہے اور بڑے کرم والا ہے ہر عیب سے پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش عظیم کا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا اے اللہ میں تجوہ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واجب کرنیوالی ہوں اور مانگتا ہوں تیری مغفرت کی موکدات کو (یعنی ایسے اعمال کر جن سے تیری مغفرت ضروری ہو جائے) اور مانگتا ہوں حصہ ہر نیکی سے اور سلامتی ہر گناہ سے میرے لئے کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑیے جسکی آپ مغفرت نہ کر دیں۔ اور نہ کوئی ایسا فکر و غم جس کو توزائل نہ کر دے اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تیری مرضی کے موافق ہو اور تو اس کو پورا نہ کر دے۔ اے ارحم الرحمین۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کرم اللہ وجہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دُعاء آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور پر نہیں چڑھتی یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ دُعا آسمان پر پہنچنے سے رُکی رہتی ہے اور کوئی دُعا آسمان تک اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک حضور پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب تک حضور پر درود بھیجا جاتا ہے تب وہ آسمان پر پہنچتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس سے نقل کیا گیا ہے جب تو دُعا منگا کرے تو اپنی دُعا میں حضور پر درود بھی شامل کر لیا کر اسلئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو مقبول ہے ہی اور اللہ جل شانہ کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ کچھ کو قبول کرے اور کچھ کو رد کرے۔ حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جسمیں اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بصیحہ۔ پس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پر وہ پچھت جاتا ہے اور وہ دعاء محل اجابت میں داخل ہو جاتی ہے ورنہ لوٹادی جاتی ہے۔ این عطا کہتے ہیں کہ دُعا کیلئے کچھ ارکان ہیں اور کچھ نہ ہیں۔ کچھ اسباب ہیں اور کچھ اوقات ہیں۔ اگر ارکان کے موافق ہوتی ہے تو دعا تو قوی ہوتی ہے اور پر وہ کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اڑ جاتی ہے اور اگر اپنے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو فائز ہوتی ہے اور اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دعاء کے ارکان حضور قلب، رقت، عاجزی خشوع اور اللہ کے ساتھ قلبی تعلق اور اس کے پر صدق ہے اور اس کے اوقات رات کا آخر حصہ اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجننا۔ اور بھی محدث داحدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ دُعا کی رہتی ہے جب تک کہ حضور پر درود نہ بھیجے۔

درود شریف کی شرعی حیثیت

درود شریف کے بارے میں حکم کا تقاضا و جو布 ہے اس لئے جمہور علماء کے نزدیک درود شریف کا کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے لیکن تیسری فصل میں جو وعدیں اس مضمون کی گذری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام آنے پر دزد نہ پڑھنے والا بخیل ہے، ظالم ہے، بدجنت ہے، اس پر حضور کی اور حضرت جبریلؑ کی طرف سے ہلاکت کی بد دعا میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بناء پر بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اس میں دس مذہب نقل کئے ہیں اور او جز المساک میں زیادہ بحث تفصیلی اس پر کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ہر مسلمان پر عمر بھر میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعد میں اختلاف ہے۔ خود حنفیہ کے ہاں بھی اس میں دو قول ہیں۔ امام طحاوی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، ان روایات کی بناء پر جو تیسری فصل میں گذریں، امام کرمی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ فرض کا درجہ ایک ہی مرتبہ ہے اور ہر مرتبہ استحباب کا درجہ ہے۔

آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **السَّيِّدُ اللَّهُ** کہ حقیقی سید تو اللہ ہی ہے اور یہ ارشاد عالیٰ بالکل صحیح ہے۔ یقیناً حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ ہی کے لئے ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضور کے نام پر سیدنا کا بڑھانا جائز ہے۔ بالخصوص جب کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جیسا کہ مکہ مکران میں حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ آنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (الحدیث) کہ میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اور دوسری حدیث میں مسلم کی روایت سے نقل کیا ہے آنَا سَيِّدُ الْأَدَمِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ کہ میں قیامت کے دن اولاً آدم کا سردار ہوں گا نیز بروایتہ ترمذی حضرت ابو سعید خدریؓ کی حدیث سے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے آنَا سَيِّدُ الْأَدَمِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخَرْ كہ میں قیامت کے دن اولاً آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں حضور کے اس

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ

”سیدنا“ کہنا مستحب ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ شروع میں ”سیدنا“ کا لفظ بڑھادینا مستحب ہے۔ درحقیقت میں لکھا ہے کہ سیدنا کا لفظ بڑھادینا مستحب ہے اس لئے کہ ایسی چیز کی زیادتی جو واقعہ میں ہو وہ عین ادب ہے جیسا کہ رملی شافعی وغیرہ نے کہا ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ہونا ایک امر واقعی ہے لہذا اس کے بڑھانے میں کوئی اشکال کی بات نہیں بلکہ ادب یہی ہے لیکن بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں۔ غالباً ان کو ابو داؤد کی ایک حدیث سے اشتباہ ہو رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک صحابی ابو مطرؓ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے حضور سے عرض کیا اُنٹ سَيِّدُنَا

صاحب مجمع نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اور اسی طرح سے احادیث میں بہت کثرت سے یہ مضمون ملے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع میں کمال کے اعتبار سے نفی فرمائی ہے، حقیقت کی نفی نہیں۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ علامہ مجدد الدین^ر (صاحب قاموس) نے لکھا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہم صل علی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کہتے ہیں اور اس میں بحث ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز میں تو ظاہر ہے کہ نہ کہنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر انکار کیا تھا جس نے آپ کو سیدنا سے خطاب کیا تھا۔ جیسا کہ حدیث مشہور میں ہے لیکن حضور کا انکار احتمال رکھتا ہے کہ تواضع ہو یا منہ پر تعریف کرنے کو پسند نہ کیا ہو یا اس وجہ سے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا استور تھا یا اس وجہ سے کہ انہوں نے مبالغہ بہت کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں آپ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، آپ ہم پر بخشش کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اور آپ جفتة الغراء ہیں۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اپنے اس سردار کو جو بڑا کھلانے والا ہو اور بڑے بڑے پیالوں میں لوگوں کو دُنبوں کی چکتی اور گھنی سے لب ریز پیالوں میں کھلاتا ہو اور آپ ایسے ہیں، تو ان سب باتوں کے مجموعہ پر حضور نے انکار فرمایا تھا اور فرمایا تھا، کہ شیطان تم کو مبالغہ میں نہ ڈال دے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہے آنا سَيِّدُ الْدَّادِمَ کہ میں اولاً آدم کا سردار ہوں۔ نیز حضور کا قول ثابت ہے اپنے نواسہ حسن^ر کے لئے اپنی ہلڈا سَيِّد میرا یہ بینا سردار ہے۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت

پاک ارشاد کا مطلب جواب ابواؤ دشیریف کی روایت میں گذرادہ کمال سیادت مراد ہے جیسا کہ بخاری شریف، میں حضرت ابوہریرہؓ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں جس کو ایک ایک دو دو لقے در بدر پھیراتے ہوں بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ وسعت ہونہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم پچھاڑنے والا کس کو سمجھتے ہو (یعنی وہ پہلوان جو دوسرے کو زیر کر دے) صحابہؓ نے عرض کیا رسول اللہ! اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی دوسرا پچھاڑنے سکے۔ حضور نے فرمایا یہ پہلوان نہیں بلکہ پچھاڑنے والا (یعنی پہلوان) وہ ہے جو غصہ کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پائے اسی حدیث پاک میں حضور کا یہ سوال بھی نقل کیا گیا کہ تم رقب (یعنی لاولد) کس کو کہتے ہو؟۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ جس کے اولاد نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ لاولد نہیں بلکہ لاولد وہ ہے جس نے کسی چھوٹی اولاد کو ذخیرہ آخرت نہ بنایا ہو (یعنی اس کے کسی معصوم بچہ کی موت نہ ہوئی ہو) اب ظاہر ہے کہ جو مسکین بھیگ مانگتا ہے اس کو مسکین کہنا کون ناجائز کہہ دے گا۔ اسی طرح جو پہلوان لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہو لیکن اپنے غصہ پر اس کو قابو نہ ہو وہ تو بہر حال پہلوان ہی کھلائے گا۔ اسی طرح سے ابواؤ دشیریف میں ایک صحابیؓ کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ کر یہ درخواست کی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پر یہ (جو اُبھرا ہوا گوشت ہے) مجھے دکھلائیے کہ میں اس کا علاج کروں کیونکہ میں طبیب ہوں۔ حضور نے فرمایا طبیب تو اللہ تعالیٰ شانہ ہی ہیں جس نے اس کو پیدا کیا ایسی آخراقصہ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک سے معا الجوں کو طبیب کہنا کون حرام کہہ دے گا بلکہ

استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی اور مولائی کہے تو اس کو نہیں روکا جائے گا اس لئے کہ سیادت کا مرجع اور مال اپنے ماتحتوں پر بڑائی ہے اور ان کے لئے حسن تدبیر اسی لئے خاوند کو سید کہا جاتا ہے۔ جب قرآن پاک میں وَالْفَيَا سَيِّدَهَا فرمایا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے سردار کو یا سیدی کہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں اخراج امام بخاریؓ نے اس کے جواز پر حضور کے ارشاد مَنْ سَيِّدُكُمْ سے بھی استدلال کیا ہے جو ایک حدیث کا مکمل ہے جس کو خود امام بخاریؓ نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا ممن سید کم کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا جد بن قیس۔ حضور نے فرمایا۔ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمَّرُو بْنُ جَمْعُونَ بلکہ تمہارا سردار عمر بن جموج ہے۔ نیز اذا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدُهُ مشہور حدیث ہے جو صحابہ گرام سے حدیث کی اکثر کتابوں بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اطعُمْ رَبِّكَ وَضَيْءَ رَبِّكَ نہ کہے یعنی اپنے آقا کو رب کے لفظ سے تعبیر نہ کرے وَالْيَقُلْ سَيِّدُكُمْ وَمَوْلَائِي بلکہ یوں کہے کہ میرا سید اور میرا مولیؑ یہ تو سید اور مولیؑ کہنے کا حکم صاف ہے۔

سعدؓ کے بارے میں ان کی قوم کو یہ کہنا قُوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لئے اور امام نسائی کی کتاب ”عمل الیوم والملیلة“ میں حضرت سہل بن حنیفؓ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سیدی کے ساتھ خطاب کرنا وارد ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے درود میں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ کا لفظ وارد ہے ان سب امور میں دلالت واضح ہے اور روشن دلائل ہیں اس لفظ کے جواز میں اور جو اس کا انکار کرے و محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی دلیل قائم کرے علاوہ اس حدیث کے جواز پر گذری۔ اس لئے کہ اس میں احتمالات مذکورہ ہونے کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا ای آخر ماذکرہ۔ یہ تو ظاہر ہے جیسا کہ اوپر بھی ذکر کیا گیا کہ کمال سیادت اللہ ہی کے لئے ہے لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی وجہ سے اس کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز معلوم ہوتا ہو۔ قرآن پاک میں حضرت مُحَمَّدٌ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بارے میں سَيِّدًا وَحُضُورًا کا لفظ وارد ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمرؓ کا ارشاد منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے أَبُو بَكْرٍ سَيِّدَنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَّا أَبُو بَكْرٍ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلاںؓ کو آزاد کیا۔ علامہ یعنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حضرت سعدؓ کے بارے میں قُوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ یعنی اپنے سردار کیلئے کھڑے ہو جاؤ، کہا تو اس سے

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار را پر لے چلے۔ اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَأَخِرُّ دَعْوَاتَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کیسا تھوڑا دُودش ریف لکھنا

درو دش ریف کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کسی تحریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام گذرے تو وہاں بھی درود شریف لکھنا چاہیے۔ محدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یہاں اس سلسلہ میں انہائی تشدید ہے کہ حدیث پاک لکھتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جائے جو استاذ سے نہ سنा ہو جتی کہ اگر کوئی لفظ استاذ سے غلط سننا ہو تو اس کو بھی یہ حضرات نقل میں بعینہ اسی طرح لکھنا ضروری سمجھتے ہیں، جس طرح استاذ سے سنा ہے۔ اس کو صحیح کر کے لکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر توضیح کے طور پر کسی لفظ کے اضافہ کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کو استاذ کے کلام سے ممتاز کر کے لکھنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہ لفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے باوجود جملہ حضرات محدثین اس کی تصریح فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو دُودش ریف لکھنا چاہیے اگرچہ استاذ کی کتاب میں نہ ہو۔ جیسا کہ امام نوویؒ نے شرح مسلم شریف کے مقدمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آئے تو بار بار دُودش ریف لکھنے اور پورا درود لکھنے اور کاہلوں اور جاہلوں کی طرح سے صلم وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارہ پر قناعت نہ کرے۔ اس کے بعد علامہ سخاویؒ نے اس سلسلہ میں چند حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں میرا نام لکھنے، فرشتے اس وقت تک لکھنے والے پر درود سمجھتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی علمی چیز لکھنے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لکھنے، اس کا ثواب اس وقت تک ملتا رہیگا جب تک وہ کتاب پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباسؓ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھنے، اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ علامہ سخاویؒ نے متعدد روایات سے یہ مضمون بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علماء حدیث حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی (جن سے

اسی طرح امام نوویؒ تقریب میں اور علامہ سیوطیؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ضروری ہے یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت زبان کو اور انگلیوں کو درود شریف کے ساتھ جمع کرے یعنی زبان سے دُودش ریف پڑھے اور انگلیوں سے لکھے بھی اور اس میں اصل کتاب کا اتباع نہ کرے اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اصل کا اتباع کرے۔ اتنی۔ بہت سی روایات حدیث بھی اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اگرچہ وہ متکلم فیہ بلکہ بعض کے اوپر موضوع ہونے کا بھی حکم لگایا گیا ہے۔ لیکن کئی روایات اس قسم کے مضمون کی وارد ہونے پر اور جملہ علماء کا اس پر اتفاق اور اس پر عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ان احادیث کی کچھ اصل ضرور ہے۔ علامہ سخاویؒ قول بدیع میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہوئے زبان سے دُودش ریف لکھا کر کہ مبارک لکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے بھی درود شریف لکھا کر کہ تیرے لئے اس میں بہت بڑا ثواب ہے اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کے ساتھ علم حدیث لکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو مستحب بتایا ہے کہ اگر تحریر میں بار بار نبی کریم صلی اللہ

ہے۔ انہی۔ صاحب اتحاف نے شرح احیاء میں بھی اس کے طرق پر کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حافظ سخاوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث جعفر صادقؑ کے کلام سے موقوفاً نقل کی گئی ہے۔ ابن قیمؓ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اقرب ہے۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ طلبہ حدیث کو عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے درود شریف کو چھوڑنا نہ چاہئے۔ ہم نے اس میں بہت مبارک خواب دیکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کئی خواب اس کے بارے میں نقل کئے ہیں۔ حضرت سفیان بن عینیؓ سے نقل کیا ہے کہ میرا ایک دوست تھا وہ مر گیا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ گذر۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی۔ میں نے کہا کس عمل پر اس نے کہا کہ میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آتا تھا تو میں اس پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، اسی پر میری مغفرت ہو گئی۔ ابو الحسن عیینوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ ابو علی کو خواب میں دیکھا، ان کی انگلیوں کے اوپر کوئی چیز سونے یا زعفران کے رنگ سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حدیث پاک کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ حسن بن محمدؓ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کاش تو یہ دیکھتا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابوں میں درود لکھنا کیسا ہمارے سامنے روشن اور منور ہو رہا ہے (بدیع) اور بھی متعدد خوابات اس قسم کے ذکر کئے ہیں۔

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْعَلْقَلِ كُلِّهِمْ

وہ حدیث لکھتے تھے) اللہ جل شانہ حضرت جبریل سے فرمائیں گے کہ ان سے پوچھو یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث پڑھنے لکھنے والے ہیں وہاں سے ارشاد ہو گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تم میرے نبی پر کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ علامہ نووی تقریب میں اور علامہ سیوطیؓ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ درود شریف کی کتاب کا بھی اہتمام کیا جائے، جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام گذرے اس کے بار بار لکھنے سے اکتا وے نہیں، اس واسطے کہ اس میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اور جس نے اس میں تسالی کیا بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ حدیث پاک اِنْ اُولَى النَّاسِ بِنِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ کے مصدق محدثین ہی ہیں کہ وہ بہت کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں اور علماء نے اس سلسلہ میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے جو شخص میرے اوپر کسی کتاب میں درود بھیجے ملائکہ اس کے لئے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس جگہ اس کا ذکر کرنا مناسب ہے اور اس کی طرف التفات نہ کیا جائے کہ ابن جوزیؓ نے اس کو موضوعات میں ذکر کر دیا ہے اس لئے کہ اس کے بہت سے طرق ہیں جو اس کو موضوع ہونے سے خارج کردیتے ہیں اور اس کے مقتضی ہیں کہ اس حدیث کی اصل ضرور ہے اس لئے کہ طبرانی نے اس کو ابو ہریرہؓ کی حدیث سے نقل کیا ہے اور ابن عدیؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی حدیث اور اصحابہؓ نے ابن عباسؓ کی حدیث سے اور ابو عیمؓ نے حضرت عائشہؓ کی حدیث سے نقل کیا

دُعا کیجئے: اے اللہ! روزِ محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجائے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔ وَأَخْرُدْغُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف کے متعلق اہم آداب و مسائل

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں ایک مستقل فصل آداب متفرقہ میں لکھی ہے اگرچہ اس کے متفرق مضا میں پہلے گذر چکے ہیں، اہمیت کی وجہ سے ان کو دوبارہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

فوٹی اس پر ہے ایک بار پڑھنا واجب ہے پھر مستحب ہے۔

۳- نماز میں بجز تشبید اخیر کے دوسراے اركان میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے (در منثار)۔

۴- جب خطبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آؤے یا خطیب یہ آیت پڑھے یا تیئھا الدین امَّنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا۔ اپنے دل میں بلا جنبش زبان کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے (در منثار)

۵- بے خصوص درود شریف پڑھنا جائز ہے اور باوضنور علی نور ہے۔

۶- بجز حضرات انبیاء، حضرات ملائکہ علی جمع یہم السلام کے کسی اور پر استقلالاً درود شریف نہ پڑھے البتہ تبعاً مضافہ نہیں۔ مثلاً یوں نہ کہے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُحَمَّدِ بِكَ يُوْں کہے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ (در منثار)

۷- در منثار میں ہے کہ اسباب تجارت کھولنے کے وقت یا ایسے ہی کسی موقع پر یعنی جہاں درود شریف پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ کسی دنیوی غرض کا اس کو ذریعہ بنایا جائے درود شریف پڑھنا منوع ہے۔

۸- در منثار میں ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا آواز کرنا جبل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازوں کے بعد حلقة باندھ کر بہت چلا چلا کر درود شریف پڑھتے ہیں قابل ترک ہے۔

یَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْعَلْقِ كَلِمَمْ

وہ ارشاد فرماتے ہیں

۱- جب اسم مبارک لکھے صلوٰۃ وسلام بھی لکھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھاں میں کوتاہی نہ کرے صرف یا صلم پر اکتفا نہ کرے

۲- ایک شخص حدیث شریف لکھتا تھا اور بسبب بخل نام مبارک کے ساتھ درود شریف نہ لکھتا تھا اس کے سید ہے ہاتھ کو مرض اکلہ عارض ہوا یعنی اس کا ہاتھ گل گیا

۳- شیخ ابن حجر عسکری نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص صرف صلی اللہ علیہ پر اکتفاء کرتا تھا، وسلم نہ لکھتا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں ارشاد فرمایا تو اپنے کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم رہتا ہے یعنی وسلم میں چار حروف ہیں ہر حرف پر ایک نیکی اور بڑی نیکی پر دس اگنانا ثواب، لہذا سلم میں چالیس نیکیاں ہوں گی۔

۴- درود شریف پڑھنے والے کو مناسب ہے کہ بدن و کپڑے پاک و صاف رکھے

۵- آپ کے نام مبارک سے پہلے سیدنا بڑھادینا مستحب اور افضل ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے درود شریف کے متعلق ایک مستقل فصل مسائل کے بارے میں تحریر فرمائی ہے۔ اس کا اضافہ بھی اس جگہ مناسب ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں:-

مسئلہ: ۱- عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے بوجہ حکم صَلَوَا کے جو شعبان ۲۰ میں نازل ہوا۔

۲- اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے تو طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے مگر

درود شریف کے متعلق حکایات

درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ، کے حکم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے بعد حکایات کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی لیکن لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے تغییر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایات لکھنے کا بھی چلا آ رہا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک فصل زاد السعید میں مستقل حکایات میں لکھی ہیں اس کے بعد چند دوسری حکایات بھی نقل کی جائیں گی۔

درود شریف کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائیگا

مواہب الدنیہ میں ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائیگا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے۔ آپ فرمائیں گے میں تیرانجی ہوں اور یہ درود شریف ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا (حاشیہ حسن)

روضہ شریفہ پر سلام عرض کرنے کیلئے خصوصی قاصد بھیجننا

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر تابعی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں شام سے مدینہ منورہ کو خاص قاصد صحیح تھے کہ ان کی طرف سے روضہ شریفہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے (حاشیہ حسن از فتح القدر)

ایک درود کی برکت

امام اسماعیل بن ابراہیم مرتضیٰ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے

بڑے شاگردوں میں ہیں نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعیؒ کو بعد انتقال کے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا۔ وہ بولے مجھے بخش دیا اور حکم فرمایا کہ مجھ کو تعظیم و احترام کے ساتھ بہشت میں لے جائیں اور یہ سب برکت ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا یہ ہے اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلُّمَا ذَكَرْتَهُ اللَّذِينَ كَرُونَ وَكُلُّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔ (حاشیہ حسن)

ڈوبتے ہوئے جہاز کا نجات پانا

ایک بزرگ نیک صالح موسیٰ ضریبِ بھی تھے انہوں نے اپنا گذر ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا۔ اسوقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود کی تعلیم فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو ہزار بار پڑھیں۔ ہنوز تین سو بار پر نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی اور بعد الممات کے انک علی کل شیء قدیر بھی اس میں پڑھنا معمول ہے اور خوب ہے وہ درود یہ ہے۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِيْنَا لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعَنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتَبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ مِنْ

قبر سے خوبیو آنا

شیخ زروق رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے خوبیو مشک و غرب کی آتی ہے اور یہ سب برکت درود شریف کی ہے۔

کاتب کی درود شریف والی بیاض مقبول ہو گئی

ایک معتمد صاحب نے ایک خوشنویں لکھنؤ کی حکایت بیان کی۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے اس کے بعد کام شروع کرتے جب انکے انتقال کا وقت آیا تو غلبہ فکر آختر سے خوفزدہ ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ ایک مجدوب آنکھ اور کہنے لگے بابا کیوں گھبرا تا ہے وہ بیاض سرکار میں پیش ہے اور اس پر صاد بن رہے ہیں۔

ایک مہینہ تک کمرہ سے خوبیو آنا

مولانا فیض الحسن صاحب سہارپوری مرحوم کے داماد نے مجھ سے بیان کیا کہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہوا وہاں ایک مہینے تک خوبیو عطر کی آتی رہی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا۔ فرمایا یہ برکت درود شریف کی ہے۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو بیدار رہ کر درود شریف کا شغل فرماتے۔

جَمِيعُ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اور شیخ مجد الدین صاحب قاموس نے بھی اس حکایت کو سندِ خود ذکر کیا ہے۔

ایک کاتب کی بخشش

عبداللہ بن قرقواریؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک کاتب میرا ہنسا یہ تھا وہ مر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے بخشد یا۔ میں نے سبب پوچھا کہا میری عادت تھی جب نام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھاتا۔ خداۓ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر گذرنا (گھن جن)

درود شریف پڑھنے والی لڑکی کی کرامت

دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے کہ مؤلف کو سفر میں وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کے اندر رکھ دیا۔ پانی کنارے تک اُبل آیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ اُس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی۔ جس کے بعد انہوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات تالیف کی۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل نے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آختر کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اُنھے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

وَأَخْرُ دُعْوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھنا

ابوزرعة رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اُس بے سبب حصول اس درجے کا پوچھا۔ اُس نے کہا میں نے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ جب نام مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا، میں درود لکھتا تھا۔ اس سبب سے مجھے یہ درجہ ملا۔ (فض) زاد السعید میں یہ قصہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ بندہ کے خیال میں کاتب سے غلطی ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ ابوزرعة گواہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا جیسا کہ حکایات میں نمبر ۲۹ پر آ رہا ہے۔

مقرر کیا تھا کہ ہر رات کو سوتے وقت درود بعد معین پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کا روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ منہ لا وَ جودُ وَ دُبُّرِتَ ہے کہ بوسہ دوں۔ اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسار سامنے کر دیا۔ آپ نے اس رخسارہ پر بوسہ دیا۔ بعد اس کے وہ بیدار ہو گیا تو سارے گھر میں مشک کی خوبی باتی رہی (فض)

حضرت حواء علیہ السلام کا مہر
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة میں لکھا ہے کہ جب حضرت حواء علیہ السلام پیدا ہوئیں، حضرت آدم نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ملائکہ نے کہا صبر کرو۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کر دو۔ انہوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر تین ۳ بار درود شریف پڑھنا اور ایک روایت میں بیس ۲۰ بار آیا ہے۔ فقط یہ واقعات زاد السعید میں نقل کئے ہیں۔ ان میں سے بعض کو دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت سے واقعات اور بہت سے خواب درود شریف کے سلسلہ میں مشاہد نے لکھے ہیں۔ جن میں سے بعض کا ذکر اس رسالہ میں کیا جاتا ہے جو زاد السعید کے قصوں پر اضافہ ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ کا معاملہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا یہ پائق درود شریف جمعہ کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمْرَتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يُنْبَغِي أَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ اس درود کو درودِ خمسہ کہتے ہیں (فض)

درود کی کثرت کی وجہ سے بخشش

شیخ ابن حجر عسکری نے نقل کیا ہے کہ ایک صالح کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حرم کیا اور مجھے بخشد یا اور جنت میں داخل کیا۔ سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا۔ فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا۔ سو ۱۰۰ درود کا شمار زیادہ نکلا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اتنا بس ہے، اس کا حساب مت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ (فض) یہ قصہ نمبر ۱۹ پر قول بدیع سے بھی آ رہا ہے۔

درود شریف پڑھنے والے منہ کا بوسہ

شیخ ابن حجر عسکری نے لکھا ہے کہ ایک مرد صالح نے معمول

درود شریف گناہوں کی مغفرت کا سبب بن گیا صوفیاء میں ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کہ جس کا نام مسطح تھا اور وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت ہی بے پرواہ اور بیباک تھا (یعنی گناہوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا) مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے میری مغفرت فرمادی۔ میں نے پوچھایا کہ کس عمل سے ہوئی اُس نے کہا کہ میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا۔ اُستاذ نے درود شریف پڑھا میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آواز سے درود پڑھا۔ میری آوازن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرمادی (قول بدیع) نزہت المجالس میں بھی اسی قسم کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوی تھا، بہت گناہگار تھا۔ میں اس کو بار بار توبہ کی تاکید کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اُسے جنت میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس مرتبہ پر کیسے پہنچ گیا؟ اُس نے کہا میں ایک محدث کی مجلس میں تھا انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور سے درود پڑھے اس کیلئے جنت واجب ہے۔ میں نے آواز سے درود پڑھا اور اس پر اور لوگوں نے بھی پڑھا اور اس پر ہم سب کی مغفرت ہو گئی۔ اس قصہ کو روض الفائق میں بھی ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ میرا ایک پڑوی تھا بہت گناہگار، ہر وقت شراب کے نشہ میں مدھوش رہتا تھا اس کو دن رات کی بھی خبر نہ رہتی تھی۔ میں اس کو نصیحت کرتا تو سنتا نہیں تھا۔ میں توبہ کو کہتا تو وہ مانتا نہیں تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

کثرت درود والی مجلس میں حاضری کا حکم
علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابوسعید خیاط تھا۔ وہ بہت یکسر ہتھ تھے۔ لوگوں سے میل جوں بالکل نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ابن رشیقؒ کی مجلس میں بہت کثرت سے جانا شروع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور نے مجھ سے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مجلس میں جایا کر اس لئے کہ یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

کثرت درود کی وجہ سے اکرام و اعزاز
ابوالعباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتویوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا۔ اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرمادی اور میرا بہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطا فرمایا۔ اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے (قول بدیع)

يَارَبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مغفرت فرمادی اور مجھ پر جرم فرمایا۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہزار رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں ایک ہزار مرتبہ قل ہو اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل عمل ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہر شب میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا کر۔ دارمی کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا معمول بنالیا (بدل)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اس کو خواب میں بہت اونچے مقام پر اور جنت کے لباس فاخرہ میں دیکھا، بڑے اعزاز و اکرام میں تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے اوپر والا قصہ محدث کا ذکر کیا

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

سیدھا جنت میں جانے کا عمل

ابو الحسن بغدادی دارمی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عبد اللہ بن حامد گورنے کے بعد کئی دفعہ خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا گذری؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری

ڈعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! روز محسن ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے حساب معاف

ایک صاحب نے ابو حفص کا غذیٰ کو ان کے بعد خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ گذرًا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرمادی۔ مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دیدیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا۔ انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو شمار کیا تو میرا درود شریف گناہوں پر بڑھ گیا، تو میرے مولیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو! بس بس آگے حساب نہ کرو اور اس کو میری جنت میں لے جاؤ (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًاً أَبَدًاً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ لِكُمْ

تو اس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ شانہ، اس کی مغفرت نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے (یعنی مشرک و کافر کی تو مغفرت ہے نہیں) اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، اس لئے ان قصوں میں اور اس قسم کے دوسرے قصوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ، کو کسی کا ایک دفعہ کا درود پڑھنا پسند آجائے وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے۔

وہ با اختیار ہے۔ ایک شخص کے کسی کے ذمہ ہزاروں روپے قرض ہیں۔ وہ قرضدار کی کسی بات پر جو قرض دینے والے کو پسند آگئی ہو یا بغیر ہی کسی بات کے اپنا سارا قرضہ معاف کر دے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ، اگر کسی کو محض اپنے لطف و کرم سے بخشدے تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے۔ ان قصوں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ دخل ہے اس لئے بہت ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے نہ معلوم کس

درود شریف کی وجہ سے ایک بنی اسرائیلی کی بخشش
علامہ سخاویؒ بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دیے ہی زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ مینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں، میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ توراة کو ہولا تھا اس میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام دیکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی (بدیع)

ایک ضروری وضاحت: اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ نہ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حقوق العباد سب معاف ہو جاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوٹ وغیرہ ہے، یہ مالک کے قبول کر لینے پر ہے۔ وہ کسی شخص کی معمولی سی عبادت، ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ قبول کر لے جیسا کہ فصل اول کی حدیث نمبر ۱۱ میں حدیث البطاقہ میں گزر چکا ہے

دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا گذری اس نے کہا شبلی بہت ہی سخت سخت پریشانیاں گذریں اور مجھ پر منکر نکیر کے سوال کے وقت گڑ بڑھونے لگی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی، کیا میں اسلام پر نہیں مرا۔ مجھے ایک آواز آئی کہ یہ دنیا میں تیری بے احتیاطی کی سزا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کا ارادہ کیا تو فوراً ایک نہایت حسین شخص میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس میں سے نہایت ہی بہتر خوبصورتی تھی۔ اس نے مجھ کو فرشتوں کے جواب بتاویئے میں نے فوراً کہہ دیئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر حرم کرے آپ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک آدمی ہوں جو تیرے کثرتِ درود سے پیدا کیا گیا ہوں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مصیبت میں تیری مدد کروں (بدل) نیک اعمال بہترین صورتوں میں اور بُرے اعمال فتح صورتوں میں آخرت میں مثل ہوتے ہیں۔ میت کی نعش جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائیں طرف روزہ بائیں طرف اور قرآنِ پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف وغیرہ وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس جانب سے عذاب آتا ہے وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بُرے اعمال خبیث صورتوں میں زکوٰۃ کامال ادا نہ کرنے کی صورت میں تو قرآنِ پاک اور احادیث میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مال اڑدہاں کراس کے گلے کا طوق ہو جاتا ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ حَيْرِ الْخَلْقِ كَلِمَمْ

وقت کا پڑھا ہوا اور کس محبت کا پڑھا ہوا پسند آجائے۔ ایک دفعہ کا بھی پسند آجائے تو بیڑا پار ہے

۔ بس ہے اپنا ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ حَيْرِ الْخَلْقِ كَلِمَمْ

بد عملی سے نجات کا نسخہ

ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت ہی بُری بدھیت صورت دیکھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے بُرے عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت (بدل) ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو دن رات بداعمالیوں میں بنتا نہیں ہے۔ اس کے بدرقه کے لئے درود شریف بہترین چیز ہے۔ چلتے پھر تے اُنھے بیٹھے جتنا بھی پڑھا جاسکے دریغ نہ کیا جائے کہ اس کیرا عظم ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ حَيْرِ الْخَلْقِ كَلِمَمْ

شیخ شبلیؒ کے پڑوسی کا واقعہ

شیخ الشافعی حضرت شبلی نور اللہ مرقدہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں

دُعا کیجئے

اے اللہ! روزِ محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔ وَأَخْرُ دَعْوَنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پل صراط پر آسمانی

حضرت عبد اللہ بن سمرةؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ پل صراط کے اوپر کبھی تو گھست کر چلتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، کبھی کسی چیز میں اٹک جاتا ہے۔ اتنے میں مجھ پر درود پڑھنا اس شخص کا پہنچا اور اُس نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ پل صراط سے گزر گیا (بدیع عن طبرانی وغیرہ)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ارشاد فرمایا کہ جب تو میرا نام لکھتا ہے یا لیتا ہے تو درود شریف کیوں نہیں پڑھتا (اس کے بعد انہوں نے درود کا اہتمام شروع کر دیا) اس کے کچھ دنوں بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہا ہے۔ جب میرا نام لیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

سلام چھوڑنے پر تنبیہ

انہیں ابو سلیمان حرائیؓ کا خود اپنا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ ابو سلیمان جب تو حدیث میں میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود بھی پڑھتا ہے تو پھر وسلم کیوں نہیں کہا کرتا۔ یہ چار حرف ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو تو چالیس نیکیاں چھوڑ دیتا ہے (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ابراهیم نسفیؓ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ

حدیث کے ایک طالب علم کا اعزاز

حضرت سفیان بن عینہؓ حضرت خلفؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑوں میں درڑتا پھر رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ تو حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا پھر یہ اعزاز واکرام تیرا کس بات پر ہو رہا ہے؟ اُس نے کہا کہ حدیث میں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام حدیث میں آتا میں اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بدلہ میں میرا یہ اکرام فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو۔ (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

درود نہ پڑھنے پر تنبیہ

ابوسلیمان محمد بن الحسین حرائیؓ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے کہ جس کا نام فضل تھا۔ بہت کثرت سے نماز روزہ میں مشغول رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا لیکن اس میں درود شریف نہیں لکھتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ لِكُلِّهِمْ

فرشتوں کی امامت کا منصب

جعفر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے (مشہور حدیث) حضرت ابو زرعہؓ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی امامت نماز میں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ عالی مرتبہ کس چیز سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صلوٰۃ وسلام لکھتا اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں (بدیع) اس حساب سے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ایک کروڑ درود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی تو ایک ہی رحمت سب کچھ ہے پھرچہ جائیکہ ایک کروڑ۔

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ لِكُلِّهِمْ

اپنے سے منقضی پایا تو میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو حدیث کے خدمتگاروں میں ہوں، اہل سنت سے ہوں، مسافر ہوں۔ حضور نے تبسم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو سلام کیوں نہیں بھیجتا۔ اس کے بعد سے میرا معمول ہو گیا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ لِكُلِّهِمْ

حضرت ابن ابی سلیمان کے والد کی مغفرت

ابن ابی سلیمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی۔ میں نے پوچھا کس عمل پر انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث میں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا کرتا تھا (بدیع)

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار را پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نور کا ستون

ابوالقاسم مرزویؒ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ رات میں حدیث کی کتاب کا مقابلہ کرتے تھے۔ خواب میں یہ دیکھا گیا کہ جس جگہ ہم مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک نور کا ستون ہے جو اتنا اونچا ہے کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ کسی نے پوچھا یہ ستون کیسا ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ درود شریف ہے جس کو یہ دونوں کتاب کے مقابلہ کے وقت پڑھا کرتے تھے صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَفَ وَكَرَمَ۔ (بدع)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ہو جاتی تھی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو حدیث لکھتا ہے تو مجھ پر درود کیوں نہیں لکھتا، جیسا کہ ابو عمرو طبریؓ لکھتے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو مجھ پر بڑی گھبراہٹ سوار تھی۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب سے جب کوئی حدیث لکھوں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھوں گا (بدع)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

حضرت ابو طاہر محدث کا واقعہ

ابو علی حسن بن علی عطارؓ کہتے ہیں کہ مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیئے میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آیا وہ حضور کے پاک نام کے بعد صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیمًا كَثِيرًا كَثِيرًا لکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نو عمری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود نہیں لکھا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

درود سلام کی وجہ سے کتاب کی تحسین ابو سلحق نہیں کہتے ہیں کہ میں حدیث کی کتاب لکھا کرتا تھا اور اس میں حضور کا پاک نام اس طرح لکھا کرتا تھا قالَ النَّبِيُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیمًا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لکھی ہوئی کتاب ملاحظہ فرمائی اور ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمدہ ہے (بظاہر لفظ تسیلیما کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے) علامہ سخاویؓ نے اور بھی بہت سے حضرات کے خواب اس قسم کے لکھے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جب بہت اچھی حالت میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ اعزاز کس وجہ سے ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہر حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود شریف لکھنے کی وجہ سے (بدع)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

درود شریف نہ لکھنے پر تنبیہ

حسن بن موی الحضر میؓ جوانِ عجینؓ کے نام سے مشہور ہیں کہ میں حدیث پاک نقل کیا کرتا تھا اور جلدی کے خیال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود لکھنے میں چوک

تلے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگادے۔ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا۔ بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں موئے مبارک لے لئے۔ وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکالتا اور ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا ہی زمانہ گذراتھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحاء میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس لئے کہ جب تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ اس وقت سے میرا یہ دستور ہو گیا کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیراً لکھتا ہو۔ (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ

خدمت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے سلام عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مُنہ پھیر لیا۔ میں نے دوسری جانب حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور نے اُدھر سے بھی مُنہ پھیر لیا۔ میں تیسرا دفعہ چہرہ انور کی طرف حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھ سے روگردانی کیوں فرمائے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس لئے کہ جب تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ اس وقت سے میرا یہ دستور ہو گیا کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیراً لکھتا ہو۔ (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ

موئے مبارک پر درود پڑھنے کی برکت ابو حفص سرقندی اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بُنخ میں ایک تاجر تھا۔ جو بہت زیادہ مالدار تھا اس کا انتقال ہوا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا لیکن ترکہ میں تین بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے۔ ایک ایک دونوں نے لے لیا، تیسراے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور کا موئے مبارک نہیں کاٹا جاسکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال

دُعا کیجئے: اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار را پر لے چلے۔ اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَأَخِرُّ دُعَوَاتِنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ستر ہزار کی بخشش

قبرستان پر ہوا۔ انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیئے گئے اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا (بدیع) روض الفائق میں اسی نوع کا ایک دوسرا قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اس کا لڑکا بہت ہی گنہگار تھا اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا تھا، اسی حال میں وہ مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر توبہ کے مرا۔ اسکو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں دیکھا تو وہ عذاب میں بنتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک زمانہ کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا نہایت خوش و خرم۔ ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہ ایک بہت بڑا گناہ گار شخص اس قبرستان پر کو گذر اقبروں کو دیکھ کر اس کو کچھ عبرت ہوئی وہ اپنی حالت پر رونز لگا اور پچھے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور بیس مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں تھا۔ اس میں سے جو حصہ مجھے ملا، اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ میری اقاں، حضور پر درود والوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور زندہ اور مردہ دونوں کیلئے رحمت ہے۔

يَارِبِ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِماً أَبَداً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

قرب الہی حاصل کرنے کا عمل

حضرت کعب بن احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ المصلوٰۃ آپ سے بیان کیا۔ صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گذر ہمارے

ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر چار رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہ۔ اس نے ایسا ہی کیا اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے۔ تارکوں لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجروں میں بند ہوئے ہیں۔ میں صحیح کو اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اسکی طرف سے صدقہ کر شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرمادے۔ اگلے دن حضرت حسن نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے۔ اور اس پر ایک بہت نہایت حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے بھی پہچانا۔ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا (یعنی عشاء کے بعد سونے تک) حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا اس نے کہا کہ ہم ستر ہزار آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گذر ہمارے

میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی تو سارا بالا خانہ مشک کی خوبیوں سے مہک رہا تھا اور مشک کی خوبیوں میرے رخسار میں سے آٹھ دن تک آتی رہی۔ (بدیع)

يَارِبِ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِماً أَبَداً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

علی بن عیسیٰ وزیر کا روزانہ ہزار مرتبہ درود پڑھنا
محمد بن مالک کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاهد کے پاس کچھ پڑھوں۔ ہم لوگ ایک جماعت انکی خدمت میں حاضر تھی اور قراتب ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بڑے میاں انکی مجلس میں آئے جن کے سر پر بہت ہی پرانا نامہ تھا۔ ایک پرانا کرتا تھا، ایک پرانی سی چادر تھی ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان کے گھروں کی، اہل و عیال کی خیریت پوچھی۔ ان بڑے میاں نے کہارات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ گھروں کے مجھ سے گھی اور شہد کی فرمائش کی۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و غم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اتنا رنج کیوں ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں ستا جب تک کہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود نہ پڑھ لے اور اس جمعہ کی رات میں تو نے سات سو ۰۰۷ مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آگیا تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد اور تو نے اس مقدار کو پورا کیا۔ یہ علامت بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اس نومولود کے والد کو سو ۱۰۰ دینار (اشرفیاں) دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ

واسلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسیٰ! اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و شنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ پکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے موسیٰ! اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ ضرور بتائیں۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ (بدیع)

يَارِبِ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِماً أَبَداً

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

درود شریف پڑھنے کی وجہ سے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بو سہ لیا

محمد بن سعید مطرف جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنار کھا تھا کہ رات کو جب سونے کی وقت لیٹتا تو ایک مقدار معین درود شریف کی پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں بالا خانہ پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے دروازہ سے اندر تشریف لائے۔ حضور کی تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا لاس منہ کولا، جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہن مبارک کی طرف منہ کروں، تو میں نے ادھر سے اپنے منہ کو پھر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسارے پر پیار کیا۔ میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو

نکلتے رہے یہاں تک کہ ایک ہزار اشرفیاں نکالیں مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس مقدار یعنی سو ۱۰۰ ادینا سے زائد نہیں لیں گے، جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا

عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

تیری کثرت درود نے مجھے گھبرادیا

عبد الرحیم بن عبد الرحمنؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں بہت ہی سخت چوتھ لگ گئی۔ اس کی وجہ سے ہاتھ پر درم ہو گیا۔ میل نے رات بہت بے چینی سے گذاری۔ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ! حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری کثرت درود نے مجھے گھبرادیا۔ میری آنکھ کھلی تو تکلیف بالکل جاتی رہی تھی اور درم بھی جاتا رہا تھا۔ (بدیع)

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِمًا أَبَدًا

عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

کر لے۔ قاری ابو بکرؓ اٹھے اور ان بڑے میاں نومولود کے والد کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکرؓ نے وزیر سے کہا۔ ان بڑے میاں کو حضور نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے قصہ پوچھا۔ شیخ ابو بکرؓ نے سارا قصہ سنایا جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لائے (توڑا ہمیانی تھیلی جس میں دس ہزار کی مقدار ہوتی ہے) اس میں سو ۱۰۰ ادینا اور اس نومولود کے والد کو دیئے۔ اس کے بعد سو ۱۰۰ اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکرؓ کو دے۔ شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ وزیر نے اصرار کیا کہ ان کو لے لجھے اس لئے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی اس لئے کہ یہ واقعہ یعنی ایک ہزار درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر سو دینا اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اس خوشخبری کے بدلہ میں ہیں کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے اور پھر سو ۱۰۰ اشرفیاں اور نکالیں اور یہ کہا کہ یہ اس مشقت کے بدلہ میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی اور اسی طرح سو ۱۰۰ اشرفیاں

دُعا کیجھے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجھے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

علامہ سخاویؒ کی کتاب کی مقبولیت

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ احمد بن رسلانؓ کے شاگردوں میں سے ایک معتمد نے کہا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کتاب قول بدیع فی الصلوٰۃ علی الحبیب الشفیع جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی کے بیان میں علامہ سخاویؒ کی مشہور تالیف ہے اور اس رسالہ کے اکثر مفصایں اسی سے لئے گئے ہیں۔ حضور کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ بہت طویل خواب ہے جس کی وجہ سے مجھے انتہائی مسرت ہوئی اور میں اللہ کے اور اس کے پاک رسول کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں اور ان شاء اللہ دارین میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا امیدوار ہوں۔ پس تو بھی اومخاطب اپنے پاک نبی کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتا رہا کر اور دل اور زبان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا رہا کہ اس لئے کہ تیرا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی قبر اطہر میں پہنچتا ہے اور تیرا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے (بدیع)

صلی اللہ علیہ وعلیٰ الہ وصّحِبِه واتّباعِه وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الدَّاِكُرُونَ
وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

یاربِ صلی وسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰی حَبِیْبِكَ خَيْرِ الْعَلْقِ كُلِّهِمْ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے استفسار پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ آخِرُ سُورَةٍ تَكَبُّرُهُ تَكَبُّرٌ ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت شریفہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ پڑھتا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ صلی اللہ علیکَ یا مُحَمَّدُ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یا مُحَمَّدُ پڑھتا ہے۔ ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلیؓ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو تو انہوں نے یہی بتایا ایک اور صاحب

حضرت شبلیؓ کا اعزاز

علامہ سخاویؒ، ابو بکر بن محمدؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاهدؓ کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلیؓ رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاهدؓ کھڑے ہو گئے۔ ان سے معافہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلیؓ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور کی خدمت میں شبلیؓ حاضر ہوئے۔

ایک جنتی شخص آئے گا جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے دو ایک دن کے بعد پھر حضور اقدس کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا اے ابو بکرؓ اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شبلیؓ کا یہ اعزاز آپ کے ہاں کس وجہ سے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَرَأَيْتُمْ آیت پڑھتا ہے اس کا یہ معمول ہے (بدلیع)

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًاً أَبَدًا
عَلَىٰ حَيْيِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

سے اسی نوع کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ ابوالقاسم خفاف ”کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلیؒ، ابو بکر بن مجاہدؒ کی مسجد میں گئے۔ ابو بکرؓ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکرؓ کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاذ سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے ان کے لئے تو آپ کھڑے ہوئے نہیں؛ شبلیؒ کے لئے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لئے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہوں۔ اس کے بعد استاذ نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور یہ کہا۔ ایک رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل کوتیرے پاس

دعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور
چلتے پھر تے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے، ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرماد تھے۔

اے اللہ! روزِ محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفا عت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَاتِنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

محجیب واقعہ

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عبد الواحد بن زید بصریؓ سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جارہا تھا، ایک شخص میرا رفیق سفر ہو گیا۔ وہ ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے اس کثرتِ درود کا سبب پوچھا۔ اُس نے کہ جب میں سب سے پہلے حج کے لئے حاضر ہوا تو میرے باپ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ تیرا باپ مر گیا اور اُس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں گھبرا یا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا، تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعہ سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مروع ہو رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار جوشی کا لے چہرے والے جنکے ہاتھ میں لو ہے کے بڑے ڈنڈے تھے مسلط ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ دو بزر کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے ان جوشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دستِ مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرہ کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بعد سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ نزہتہ المجالس میں ایک اور قصہ اسی نوع کا ابو حامد قزوینیؓ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا سر (منہ وغیرہ) سورجیسا ہو گیا۔ وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی۔ اتنے میں اُس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ سو دکھایا کرتا تھا اس لئے یہ صورت بدل گئی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے بارے میں سفارش کی ہے۔ اسلئے کہ جب یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا۔ آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی اصلی صورت پر لوٹا دیا گیا۔

رض افائق میں اسی نوع کا ایک قصہ نقل کیا ہے۔ وہ حضرت سفیان ثوریؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح تہلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا کہ میں سفیان ثوریؓ ہوں۔ اُس نے کہا کہ اگر تو اپنے زمانہ کا یکتائی ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والد اور ان سے زیادہ بہترین خوبصوری میں نے کہیں نہیں دیکھی تیزی

سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْعَالَقِ كُلِّهِمْ

تریاق مجرب

نہہتہ المجالس میں لکھا ہے کہ بعض صلحاء میں سے ایک صاحب کو جس سی نوں ہو گیا۔ انہوں نے خواب میں عارف باللہ حضرت شیخ شہادت الدین بن رسلانؒ کو جو بڑے زاہد اور عالم تھے دیکھا اور ان سے اپنے مرض کی شکایت و تکلیف کی۔ انہوں نے فرمایا تو تریاق مجرب سے کیوں غافل ہے یہ درود پڑھا کر اللہُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قُلُوبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ۔ خواب سے اٹھنے کے بعد ان صاحب نے اس درود کو کثرت سے پڑھا اور ان کا مرض زائل ہو گیا۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْعَالَقِ كُلِّهِمْ

سے قدم بڑھائے چلے آرہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر حم کرے آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافت میں احسان فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا میں محمد بن عبد اللہ صاحب قرآن ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْعَالَقِ كُلِّهِمْ

موت کی تلخی سے حفاظت

نہہتہ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی یمار کے پاس گئے (ان کی نزع کی حالت تھی) ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لئے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت

دُعا کیجئے

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔ اے اللہ! روز مختصر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَالْآخِرُ دُعَوْنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہر قدم پر درود پڑھنے والے آدمی کا واقعہ

پوچھا یہ درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی ماں کے ساتھ جو کو گیا تھا۔ میری ماں وہیں رہ گئی (یعنی مر گئی) اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دُعا کیلئے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ (جہاز) سے ایک ابرا آیا اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرانبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجئے تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ۔ پڑھا کر۔ (نزہت)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًاً أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْغَلِيقِ لِكُلِّهِمْ

حافظ ابو نعیم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے۔ اللہُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کسی علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے؟ (یا محض اپنی رائے سے) اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا کیا عراق والے سفیان۔ میں نے کہا ہاں! کہنے لگا تھے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے دن نکالتا ہے دن سے رات نکالتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں اس کو فتح کرنا پڑتا ہے اور کسی کام کے کرنے کی شہادتیاں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

آپ پر قربان آپ کی فضیلت کا اللہ کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے یلیستا اطعنا اللہ و اطعنا الرَّسُولُا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر حضرت موسیٰ (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اللہ جل شانہ نے یہ مججزہ عطا فرمایا ہے کہ پھر سے نہیں نکال دیں تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا (کہ حضور کا یہ مججزہ مشہور ہے) یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ اگر حضرت سلیمان (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو ہوا ان کو صحیح کے وقت میں ایک مہینہ کا راستہ طے کر ادے اور شام کے وقت میں ایک مہینہ کا طے کر ادے تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو ساتویں آسمان سے بھی پرے لے جائے اور صحیح کے وقت آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائیں صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر حضرت عیسیٰ (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اللہ تعالیٰ نے یہ مججزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرمادیں تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک بکری جس کے گوشت کے ملکرے آگ میں بھون دیئے گئے ہوں وہ آپ سے یہ درخواست کرنے کہ آپ مجھے نہ کھائیں، اس لئے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت نوح (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اپنی قوم کے لئے یہ ارشاد فرمایا۔ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفَرِيْنَ دَيَّارًا۔ ”اے رب کافروں میں سے زمین پر بننے

صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رور ہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ایک کھجور کا تنہ جس پر سہارا لگا کر آپ منبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے پھر جب منبر بن گیا اور آپ اُس پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنہ آپ کے فراق سے رونے لگا یہاں تک کہ آپ نے اپنا دستِ مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا (یہ حدیث کا مشہور قصہ ہے) یا رسول اللہ! آپ کی امت آپ کے فراق سے رونے کی زیادہ مستحق ہے بہ نسبت اس تنے کے (یعنی امت اپنے سکون کے لئے توجہ کی زیادہ محتاج ہے) یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا عالی مرتبہ اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا چنانچہ ارشاد فرمایا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ” جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ” یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی اوپنجی ہوئی کہ آپ سے مطالبه سے پہلے معافی کی اطلاع فرمادی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ أَذِنْتَ لَهُمْ ” اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں۔ ” یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا علوشان اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیاء کی میثاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَأَبْرَاهِيمَ (الآلیة) یا رسول اللہ میرے ماں باپ

کو گھیر کھا تھا) اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں (قرآن پاک میں ہے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ) یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ اپنے ہم جنسوں ہی کے ساتھ نشست و برخاست فرماتے تو آپ ہمارے پاس کبھی نہ بیٹھتے اور اگر آپ نکاح نہ کرتے مگر اپنے ہی ہم مرتبہ سے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا اور اگر آپ اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہی ہمسروں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے بیشک آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا، ہماری عورتوں سے نکاح کیا، ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھایا، والوں کے کپڑے پہننے (عربی) گدھے پر سواری فرمائی اور اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا اور زمین پر (دسترخوان بچھا کر) کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اپنی الگیوں کو (زبان سے) چاٹا۔ اور یہ سب امور آپ نے تواضع کے طور پر اختیار فرمائے صلی اللہ علیک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود وسلام بھیجے۔

يَارَبِّ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِماً أَبَداً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِيمَ

والاکوئی نہ چھوڑ، اگر آپ بھی ہمارے لئے بدوعاء کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک کافروں نے آپ کی پُشت، مبارک کوروندا (کہ جب آپ نماز میں سجدہ میں تھے آپ کی پُشت مبارک پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا تھا اور غزوہ احمد میں) آپ کے چہرہ مبارک کو خون آلودہ کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ نے بجائے بدوعاء کے یوں ارشاد فرمایا۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ ”اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ جانتے نہیں (جاہل ہیں) یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی عمر کے بہت تھوڑے سے حصے میں (کہ نبوت کے بعد تھیں ۲۳ ہی سال ملے) اتنا بڑا مجمع آپ پر ایمان لایا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طویل عمر (ایک ہزار برس) میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے (کہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چونیں ہزار تو صحابہ تھے اور جو لوگ عالم بنا نہ مسلمان ہوئے حاضرنہ ہو سکے ان کی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے) آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے (بخاری کی مشہور حدیث عرضت علی الامم میں ہے رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدًّا لِّأَفَقَ کہ حضور نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا کہ جس نے سارے جہاں

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی

حاصل نہ ہونا ترجمہ کا تسامح ہے۔ اس ناکارہ کے رسالہ فضائل حج کے زیارت مدینہ کے قصوں میں نمبر ۸ پر بھی یہ قصہ گذر چکا ہے اور اس میں اسی نوع کا ایک قصہ نمبر ۲۳ پر ابن الجلاء کا بھی وفاء الوفا سے گذر چکا ہے اور اس نوع کے اور بھی متعدد قصے اکابر کے ساتھ پیش آچکے ہیں جو وفاء الوفاء میں کثرت سے ذکر کئے گئے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے والد کے

مکاشفات و خواب

حضرت اقدس شیخ المشائخ مندہند امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے رسالہ حرزہمین فی مبشرات النبی الامین جس میں انہوں نے چالیس خواب یا مکاشفات اپنے یا اپنے والد ماجد کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلہ میں تحریر فرمائے ہیں۔ اس میں نمبر ۱۲ پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے بہت ہی بھوک لگی (ن معلوم کتنے دن کا فاقہ ہوگا) میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی تو میں نے دیکھا کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مقدس آسمان سے اتری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روٹی تھی گویا اللہ جل شانہ نے حضور کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ روٹی مجھے مرجحت فرمائیں۔ نمبر ۱۳ پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رات کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تو میرے دوستوں میں سے ایک شخص دودھ کا پیالہ لا یا جس کو میں نے پیا اور سو گیا۔ خواب میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دودھ میں نے ہی بھیجا تھا یعنی میں نے توجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دودھ لے کر جائے اھ۔ اور جب اکابر صوفیاء کی توجہات معروف و متواتر ہیں تو پھر سید الاولین و

نزہۃ المساتین میں حضرت ابراہیم خواص سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو سفر میں پیاس معلوم ہوئی اور شدت پیاس سے بیہوش ہو کر گر پڑا۔ کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھیں کھولیں تو ایک مرد حسین خوبرو کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ اس نے مجھ کو پانی پلا یا اور کہا میرے ساتھ رہو۔ تھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ اس جوان نے مجھ سے کہا تم کیا دیکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ مدینہ ہے اس نے کہا اتر جاؤ۔ میرا سلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اور عرض کرنا آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے۔ شیخ ابوالخیر اقطع فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں آیا پانچ دن وہاں قیام کیا، کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا۔ میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گوسلام کیا اور عرض کیا اے رسول اللہ آج میں آپ کا مہمان ہوں پھر وہاں سے ہٹ کر منبر کے پیچھے سو رہا۔ خواب میں حضور رسولِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت ابو بکر آپ کی دانی اور حضرت عمر آپ کی بائیں جانب تھے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ آپ کے آگے تھے۔ حضرت علیؓ نے مجھ کو ہلایا اور فرمایا کہ انھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں انھا اور حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوہما۔ حضور نے ایک روٹی مجھ کو عنایت فرمائی میں نے آدمی کھائی اور جا گا تو آدمی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ شیخ ابوالخیر کا قصہ علامہ سخاویؓ نے قول بدیع میں بھی نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزہۃ کے ترجمہ میں کچھ تسامح ہوا۔ قول بدیع کے الفاظ یہ ہیں:- اَقْمُثْ خَسْمَةَ اَيَّامٍ مَادْفُثُ ذَوَافَاً۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پانچ دن رہا اور مجھے ان دنوں میں کوئی چیز چکھنے کو بھی نہیں ملی۔ ذوق و شوق

سامنے کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر انکار کر دیا۔ میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آئی کہ میری نسبت نقشبند یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے اور میرا سلسلہ نب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اس لئے ان دونوں حضرات کے سامنے تو مجھے انکار کی جرأت نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرانہ تو سلسلہ سلوک ملتا تھا نہ سلسلہ نب، اس لئے وہاں بولنے کی جرأت ہو گئی۔ فقط۔ یہ حدیث الہدایا مشترکۃ والی محدثین کے نزدیک تو متکلم فیہ ہے اور اس کے متعلق اپنے رسالہ فضائلِ حج کے ختم پر بھی دو قصے ایک قصہ ایک بزرگ کا اور دوسرا قصہ حضرت امام ابو یوسف فقیہہ الامم کا لکھ چکا ہوں۔ اس جگہ اس حدیث سے تعریض نہیں کرنا تھا۔ اس جگہ تو یہ بیان کرنا تھا کہ اجوہ الناس سیدالکونین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی امت پر مادی برکات بھی روز افزون ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ اپنے رسالہ حرزشین میں نمبر ۱۹ پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان المبارک میں سفر کر ہے تھے، نہایت شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی مشقت اٹھانی پڑی۔ اسی حالت میں مجھے اونگھ آگئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے بہت ہی لذیذ کھانا جس میں چاول اور میٹھا اور زعفران اور گھنی خوب تھا (نہایت لذیذ زردہ) مرحمت فرمایا جس کو خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر حضور نے پانی مرحمت فرمایا جس کو خوب سیر ہو کر پیا، جس سے بھوک پیاس سب جاتی رہی اور جب آنکھ کھلی تو میرے ہاتھوں میں سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان قصوں میں کچھ تردد نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ احادیث صوم و صالح میں اینی یُطْعَمُنِی رَبِّنِی وَيَسْقِيْنِی (مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے) میں ان چیزوں کا مأخذ

الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا کیا پوچھنا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نمبر ۱۵ پر تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک دفعہ یکار ہوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے۔ اس کے بعد ۶۷ کی بشارت عطا فرمائی، اور اپنی ڈاڑھی مبارک میں سے دو بال مرحمت فرمائے مجھے اسی وقت صحت ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال میرے ہاتھ میں تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان دون بالوں میں سے ایک مجھے مرحمت فرمایا تھا۔ اسی طرح شاہ صاحبؒ نمبر ۱۸ پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائے طالب علمی میں مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں مگر مجھے اس میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے تردد تھا کہ ایسا کروں یا نہ کرو۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک روئی مرحمت فرمائی۔ حضرات شیخین وغیرہ تشریف فرماتھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الہدایا مشترکۃ۔ میں نے وہ روئی ان کے سامنے کر دی انہوں نے ایک مکڑا توڑ لیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا الہدایا مشترکۃ۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہی الہدایا مشترکۃ رہا یہ روئی تو اسی طرح تقسیم ہو جائے گی۔ مجھ فقیر کے پاس کیا بچے گا۔ حرزشین میں تو یہ قصہ اتنا ہی لکھا ہے لیکن حضرت کی دوسری کتاب ”انفاس العارفین“ میں کچھ اور بھی تفصیل ہے وہ یہ کہ میں نے سونے سے اٹھنے کے بعد اس پر غور کیا کہ اس کی کیا وجہ کہ حضرات شیخین کے کہنے پر تو میں نے روئی ان کے

اور میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں تو لوگوں کے لئے سونے اور غفلت کا ذریعہ ہے اور میرے ساتھ تیقظ اور چوکتا پن ہے اور مجھے میں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے اور میرے میں آفتاب نکلتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ رات نے کہا کہ اگر تو اپنے آفتاب پر فخر کرتا ہے تو میرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب ہیں، اہل تجد وَ الرَّحْمَةِ اللَّهِ الْغَنِيُّ عَنِ الْمُنْفَعِ (الآلیة) وارد ہے۔ یعنی جب بھی حضرت زکریاؑ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور ان سے دریافت فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کھاں سے آئیں، وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں بے شک اللہ جس کو چاہتے ہیں بے اتحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ درمنثور کی روایات میں اس رزق کی تفاصیل وارد ہوئی ہیں کہ بغیر موسم کے انگوروں کی زنبیل بھری ہوئی ہوتی تھی اور گرمی کے زمانہ میں سردی کے پھل اور سردی کے زمانہ میں گرمی کے پھل

يَارَبِ صَلِيلَ وَسَلِيلَ دَائِيمًاً أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ

رات اور دن کا مناظرہ

نزہتہ المجالس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ رات اور دن میں آپس میں مناظرہ ہوا کہ ہم میں سے کون سا افضل ہے دن نے اپنی فضیلت کیلئے کہا کہ میرے میں تین فرض نمازیں ہیں اور تیرے میں دو اور مجھے میں جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت جس میں آدمی جو مانگے وہ ملتا ہے (یہ صحیح اور مشہور حدیث ہے)

دُعا تکبیح

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرماد تکبیح۔

وَأَخْرُ دَعْوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

واقعہ معراج

حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھات میں معراج کا قصہ بھی یقیناً ایک بڑی اہمیت اور خصوصیت رکھتا ہے۔ قاضی عیاض شفاء میں فرماتے ہیں کہ حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی فضائل کو متضمن ہے اللہ جل شانہ سے سرگوشی اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت، انبیاء اکرام کی امامت اور سدرۃ المنتہی تک تشریف بری لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ شانہ کی بڑی بڑی نشانیوں کی سیریہ معراج کا قصہ حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اور اس قصہ میں جتنے درجات رفیعہ جن پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں روشنی ڈالی گئی ہے یہ سب حضرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ اس قصہ کو صاحب قصیدہ بردہ نے مختصر لکھا ہے اور جس کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مع ترجمہ کے نثر الطیب میں ذکر کیا ہے۔ اسی سے یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”آپ کو مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسول نے اپنا امام و پیشوایا جیسا مخدوم خادموں کا امام و پیشوایا ہوتا ہے۔“

وَانْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ فِي

مَوْكَبَ كَنْتَ فِيهِ صَاحِبُ الْعِلْمِ

”اور (مخلصہ آپ کی ترقیات کے یہ امر ہے کہ) آپ سات آسمانوں کو طے کرتے جاتے تھے جو ایک دوسرے پر ہے ایسے لشکر ملائکہ میں (جو بلحاظ آپ کی عظمت و شان و تالیف قلب مبارک آپ کے ہمراہ تھا اور) جس کے سردار اور صاحب علم آپ ہی تھے۔“

حَتَّى اذَالَّمْ تَدْعُ شَأْوَالْمُسْتَبِقِ مِنْ

الْدُّنْوِ وَلَا مَرْقًا لِمُسْتَنِمِ

”آپ رتبہ عالی کی طرف برابر ترقی کرتے رہے اور آسمانوں کو برابر طے کرتے رہے یہاں تک کہ جب آگے بڑھنے والے کی قرب و منزلت کی نہایت نہ رہی اور کسی طالب رفت کے واسطے کوئی موقع ترقی کا نہ رہا تو۔“

خَفَضَتْ كُلَّ مَكَانٍ بِالْأَعْلَى ضَافَةً إِذْ

نَوَدَيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعِلْمِ

مِنْ الْقَصِيدَه

سُوِيتَ مِنْ حَرَمٍ لِيَلَالَ إِلَى حَرَمٍ كَمَا سَرَى

الْبَدْرُ فِي دَاجِ مِنَ الظُّلُمِ

”آپ ایک شب میں حرم شریف مکہ سے حرم محترم مسجد القصی تک (باوجود یہ کہ ان میں فاصلہ چالیس روز کے سفر کا ہے ایسے ظاہرو باہر تیز روکمال نورانیت و ارتقاء کدوڑت کے ساتھ) تشریف لے گئے جیسا کہ بدلتاریکی کے پرده میں نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔“

وَبَتْ تَرْقَى إِلَى إِنْ نَلَتْ مَنْزَلَةً مِنْ قَابِ

قَوْسِينَ لَمْ تَدْرِكْ وَلَمْ تَرْمِ

”اور آپ نے بحالت ترقی رات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیا جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی نہیں پہنچایا گیا تھا بلکہ اس مرتبہ کا بسبب غایت رفت کسی نے قصد بھی نہیں کیا تھا۔“

وَقَدْ مَتَكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا وَالرَّسُلُ

تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدْمَهِ

الہند مولانا الحاج محمود الحسن صاحب دیوبندی قدس سرہ کے والد ماجد حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس سے ترجمہ نقل کیا۔ اس کے بعد آخری شعر یارب صل و سلم اخ تحریر فرمایا کہ اپنی طرف سے عبارت ذیل کا اضافہ کیا ہے۔

وَنَخْتَمُ الْكَلَامَ عَلَىٰ وَقْعَةِ الْأَسْرَاءِ

بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ سِيدِ الْأَهْلِ الْأَصْطَفَاءِ

وَالَّهُ وَاصْحَابُهُ أَهْلُ الْإِجْتِبَاءِ

مَادِ امْتُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءِ

جس کا ترجمہ یہ ہے: ”ہم ختم کرتے ہیں معراج والے قصہ پر کلام کو درود شریف کے ساتھ اس ذات پر جو سردار ہے سارے برگزیدہ لوگوں کی اور ان کے آل و اصحاب پر جو منتخب ہستیاں ہیں جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں۔“

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًاً أَبَدًاً

عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

”(جس وقت آپ کی ترقیات نہایت درجہ کو پہنچ گئیں تو آپ نے ہر مقامِ انبیاء گویا ہر صاحب مقام کو) بہ نسبت اپنے مرتبہ کے جو خداوند تعالیٰ سے عنایت ہوا پست کر دیا جب کہ آپ ادن (یعنی قریب آ جا) کہہ کر واسطے ترقی مرتبہ کے مثل یکتاوانا مورث شخص کے پکارے گئے۔“

كِيمَا تَفْوزُ بِوَصْلِ إِيٰ مُسْتَرِّعِنْ

الْعَيْنُ وَسَرَائِي مَكْتَسِمْ

”(یہ ندایا محمد کی اس لئے تھی) تاکہ آپ کو وہ وصل حاصل ہو جو نہایت درجہ آنکھوں سے پوشیدہ تھا جیل اور کوئی مخلوق اس کو دیکھنہ میں سکتی اور) تاکہ آپ کامیاب ہوں اس اچھے بھید سے جو غایت مرتبہ پوشیدہ ہے۔“ (عطر الورود)

”یہاں تک تھضرت“ نے قیصہ بردہ سے معراج کا قصہ نقل فرمایا اور عطر الورود جو قیصہ بردہ کی اردو شرح حضرت شیخ

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! روزِ محشر ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَآخِرُ دُعَوَاتِنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چهل درود شریف

زادالسعید سے اخذ شدہ چهل حدیث: (۱) حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ نے زادالسعید میں درود وسلام کی ایک چهل حدیث تحریر فرمائی ہے اور اسی سے نشر الطیب میں بھی حوالوں کے حذف کے ساتھ نقل فرمائی ہے اس کو اس رسالہ میں ترجمہ کے اضافہ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے تاکہ وہ برکت حاصل ہو جو حضرت نے تحریر فرمائی ہے۔ زادالسعید میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ یوں تو مشائخ کرام سے صد ہا صینے اس کے منقول ہیں دلائل الخیرات اس کا نمونہ ہے مگر اس مقام پر صرف جو صینے صلوٰۃ وسلام کے احادیث مرفوعہ حقیقیہ یا حکمیہ میں وارد ہیں ان میں سے چالیس صینے مرقوم ہوتے ہیں۔ جس میں پچیس ۲۵ صلوٰۃ اور پندرہ ۱۵ اسلام کے ہیں۔ گویا یہ مجموعہ درود شریف کی چهل حدیث ہے جس کے باب میں بشارت آئی ہے کہ جو شخص امردین کے متعلق چالیس ۲۰ حدیثیں میری امت کو پہنچاوے، اس کو اللہ تعالیٰ زمرة علماء میں محفور فرمائیں گے اور میں اس کا شفیع ہوں گا۔ درود شریف کا امردین سے ہونا وجہ اس کا مورب ہونے کے ظاہر ہے تو ان احادیث شریف کے جمع کرنے سے مفاسعف ثواب (اجر درود واجز تبلیغ چهل حدیث) کی توقع ہے۔ ان احادیث سے قبل دو صینے قرآن مجید سے تبرکات کا لکھے جاتے ہیں جو اپنے عموم لفظی سے صلوٰۃ نبویہ کو بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سب صینوں کو روزانہ پڑھ لیا کرے تو تمام فضائل و برکات جو جد احمد اہر صینے کے متعلق ہیں وہ سب اس شخص کو حاصل ہو جائیں۔

تَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

”اے اللہ (قیامت تک) قائم رہنے والی اس پکار اور ناف نماز کے مالک درود نازل فرماسیدنا محمد پر اور مجھ سے اسی طرح راضی ہو جا کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو۔“

(۳) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں اور درود نازل فرماسارے مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات پر۔“

(۴) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ

صینے قرآنی

۱: سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ”سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر“

۲: سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ”سلام ہو رسولوں پر“

چهل حدیث مشتمل بر صلوٰۃ وسلام
(باضافہ ترجمہ) صینے صلوٰۃ

(۱) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقْرَبَ عِنْدَكَ۔

”اے اللہ سیدنا محمد اور آل محمد پر درود نازل فرمائے آپ کو ایسے ٹھکانے پر پہنچا جو تیرے نزدیک مقرب ہو۔“

(۲) اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْضَ عَنْيَ رِضاً لَا

سیدنا محمد پرجیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم کی اولاد پر بیشک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔

(۷) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ
اللَّهُمَّ بَارِکْ عَلِیِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
کَمَا بَارَکْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جس طرح تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم پر بیشک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرمائی بیشک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۸) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ وَ بَارِکْ عَلِیِ مُحَمَّدٍ
وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ
اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پرجیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم اور آل سیدنا ابراہیم پر بیشک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے اور برکت نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پرجیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، سیدنا ابراہیم پر بے شک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۹) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ وَ بَارِکْ عَلِیِ مُحَمَّدٍ
وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ

مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ
وَ رَحِمْتَ عَلَیِ ابْرَاهِیْمَ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر اور برکت نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر اور رحمت نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جیسا کہ تو نے درود و برکت و رحمت سیدنا ابراہیم اور آل سیدنا ابراہیم پر نازل فرمایا بے شک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۵) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ
اللَّهُمَّ بَارِکْ عَلِیِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ کَمَا
بَارَکْتَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے درود نازل فرمایا آل سیدنا ابراہیم پر بیشک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی۔ بیشک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۶) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ
کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ
وَ بَارِکْ عَلِیِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ کَمَا
بَارَکْتَ عَلَیِ الْمُحَمَّدِ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پرجیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل سیدنا ابراہیم پر بے شک تو ستدودہ صفات بزرگ ہے اور برکت نازل فرماسیدنا محمد اور آل

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
”اے اللہ درود نازل فرمایا سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم پر اور برکت نازل فرمایا سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم پر بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ برکت نازل فرمایا سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جیسا کہ تو نے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمایا بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرمایا سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم پر اور برکت نازل فرمایا سیدنا محمد پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرمایا بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۱۰) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار را پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ بنے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی، ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے، ہمیں بھی محس اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! روز میحرہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چهل درود شریف

مطہرات اور آپ کی ذریات پر جیسا تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرمادنیا محمد اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریات پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی بیشک تو سو وہ صفات بزرگ ہے۔

(۱۴) اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بِالنَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

”اے اللہ درود نازل فرمانی اکرم سیدنا محمد پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور آپ کی ذریات اور آپ کے اہل بیت پر جیسا تو نے سیدنا ابراہیم پر درود نازل فرمایا بیشک تو سو وہ صفات بزرگ ہے۔“

(۱۵) اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ۔

”اے اللہ درود نازل فرمادنیا محمد اور آل سیدنا جس طرح تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم اور آل سیدنا ابراہیم پر اور برکت نازل فرمادنیا محمد اور آل سیدنا جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور رحمت بھیج سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی سیدنا ابراہیم پر اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر۔“

(۱۶) اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ

(۱۷) اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَلَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

”اے اللہ درود نازل فرمادنیا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے آل سیدنا ابراہیم پر درود نازل فرمایا اور برکت نازل فرمادنیا محمد اور آل سیدنا محمد پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی سارے جہانوں میں بے شک تو سو وہ صفات بزرگ ہے۔“

(۱۸) اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

”اے اللہ درود نازل فرمادنیا محمد اور آپ کی ازواج مطہرات اور ذریات پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر درود نازل فرمایا اور برکت نازل فرمادنیا محمد اور آپ کی ازواج مطہرات اور ذریات پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی بے شک تو سو وہ صفات بزرگ ہے۔“

(۱۹) اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

”اے اللہ درود نازل فرمادنیا محمد اور آپ کی ازواج

(۱۷) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ
وَ بَارِکْ وَ سَلِّمْ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ
وَ ارْحَمْ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی الْأَلِّ
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَلَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر
اور برکت وسلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر اور رحمت فرماء
سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پرجیسا تو نے درود برکت اور
رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم اور آل سیدنا ابراہیم پرسارے
جهانوں میں بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۱۸) اللہم صلی علی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلی إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہم بَارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ
وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلی إِبْرَاهِيمَ
وَ عَلَی الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

”اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر درود نازل فرماء
جس طرح تو نے سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی
اولاد پر درود نازل فرمایا بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے
اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرماء جس
طرح تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت
نازل فرمائی بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

یہ نماز والا مشہور درود ہے زادالسعید میں لکھا ہے کہ یہ
سب صیغوں سے بڑھ کر صحیح ہے۔ ایک ضروری بات قابل تنبیہ
یہ ہے کہ زادالسعید کے حوالوں میں کاتب کی غلطی سے تقدم تا خر
ہو گیا اس کا لحاظ رہے۔

وَ أَخْرُدَعُونَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَی إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہم بَارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ
وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلی إِبْرَاهِيمَ
وَ عَلَی الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہم
تَرَحَّمْ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا

تَرَحَّمْتَ عَلی إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہم تَحَنَّنْ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّتَ عَلی إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی الْأَلِّ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہم سَلِّمْ عَلی
مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلی
إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

”اے اللہ سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر درود نازل فرماء جس
طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر درود
نازل فرمایا بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ سیدنا
محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرماء جس طرح تو نے
سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی
بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے اے اللہ رحمت بھیج سیدنا
محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم اور
سیدنا ابراہیم کی اولاد پر رحمت بھیجی بے شک تو ستودہ صفات
بزرگ ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر محبت آمیز
شفقت فرماء جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم
کی اولاد پر محبت آمیز شفقت فرمائی۔ بے شک تو ستودہ صفات
بزرگ ہے۔ اے اللہ سلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر
جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر
سلام بھیجا بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

چهل درود شریف

”اے اللہ اپنے (برگزیدہ) بندے اور اپنے رسول نبی اُمی سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی اولاد پر درود نازل فرمائے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر ایسا درود نازل فرمایا جو تیری رضا کا ذریعہ ہوا اور حضور کے لئے پورا بدلتہ ہوا اور آپ کے حق کی ادائیگی ہوا اور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے عطا فرمایا (ان تینوں کا بیان فصل ثانی کی حدیث نمبرے پر گذر گیا) اور حضور کو ہماری طرف سے ایسی جزا عطا فرمایا جو آپ کی شان عالی کے لائق ہوا اور آپ کو ان سب سے افضل بدلتہ عطا فرمایا جو تو نے کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمایا اور حضور کے تمام برادران انبیاء و صالحین پر اے ارحم الراحمین درود نازل فرمایا۔“

(۲۲) اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

”اے اللہ درود نازل فرمانی اُمی سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی اولاد پر جیسا تو نے درود نازل فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر اور برکت نازل فرمانی اُمی سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر جیسا تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۲۳) اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔
اللہُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اللہُمَّ بَارِكْ عَلَى

(۱۹) اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْأَبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْأَبْرَاهِيمَ۔

”اے اللہ اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد پر درود نازل فرمایا فرماجیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم کی اولاد پر درود نازل فرمایا اور سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر برکت نازل فرمایا جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی۔“

(۲۰) اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

”اے اللہ درود نازل فرمانی اُمی سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ اور برکت نازل فرمائی اُمی سیدنا محمد پر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر برکت نازل فرمائی بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

(۲۱) اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِّيِّ الْمُحَمَّدِ صَلُوةً تَكُونُ لَكَ رِضَى وَلَهُ جَزَاءٌ وَلَحَقَّةٌ أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهَ عَنَّا مَاهُوا أَهْلُهُ وَاجْزِهَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولاً عَنْ أَمَّتِهِ وَصَلِّ جَمِيعَ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

(۲۵) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمَّىٰ.
”اوَرَاللَّهُ تَعَالَى دَرُودَنَا زَلْ فَرْمَائِينَ نَبِيَّ اُمَّى پَر۔“

صیغ السلام

(۲۶) التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّابُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِهِ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.

”ساری عبادات قولیہ اور عبادات بدینیہ اور عبادات مالیہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں، سلام ہو آپ پر اے بنی اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں آپ پر نازل ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

(۲۷) التَّحِيَّاتُ الطَّيَّابُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِهِ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”ساری عبادات قولیہ عبادات مالیہ عبادات بدینیہ اللہ کیلئے ہیں۔ اے بنی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں نازل ہوں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكَتْ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا
مَعَهُمْ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمَّىٰ.

”اے اللہ درود نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کے گھر والوں پرجیسا تو نے حضرت ابراہیم پر درود نازل فرمایا بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر ان کے ساتھ درود نازل فرماء اے اللہ برکت نازل فرماسیدنا محمد پر اور آپ کے گھر والوں پرجیسا تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر ان کے ساتھ برکت نازل فرماء۔ اللہ تعالیٰ کے بکثرت درود اور مومنین کے بکثرت درود بنی امی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں۔“

(۲۸) اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ
وَبَرَّ كَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا
جَعَلْتَهَا عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْأَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

”اے اللہ اپنے درود اور اپنی رحمت اور اپنی برکتیں سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر (نازل) فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد پر فرمایا بیشک تو ستودہ صفات بزرگ ہے اور برکت فرماسیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پرجیسا تو نے برکت نازل فرمائی، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔“

چهل درود شریف

وَبَرَّكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ أَسَأْلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے
شروع کرتا ہوں ساری عباداتِ قولیہ عباداتِ بدنیہ عباداتِ مالیہ
اللہ کے لئے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور
اسکی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر (بھی) سلام
ہو میں شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
شہادت دیتا ہوں کہ بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے
بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جنت کی
درجہ خواست کرتا ہوں اور جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔“

(۳۱) التَّحِيَاتُ الزَّائِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ
لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَّكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”پاکیزہ عباداتِ قولیہ عباداتِ مالیہ عباداتِ بدنیہ اللہ کے
لئے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں
ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر (بھی) سلام ہو۔ میں شہادت
دیتا ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا
ہوں کہ بیشک سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

(۳۲) بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ الصَّلُوةُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۲۸) التَّحِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”تمام عباداتِ قولیہ مالیہ بدنیہ اللہ ہی کے لئے ہیں، اے
نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں نازل ہوں،
سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں شہادت دیتا ہوں کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے
اور شہادت دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
اور اس کے رسول ہیں۔“

(۲۹) التَّحِيَاتُ لِلَّهِ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ
الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”ساری با برکت عباداتِ قولیہ عباداتِ بدنیہ عباداتِ مالیہ
اللہ کے لئے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس
کی برکتیں ہوں، سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی
دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں
کہ بے شک سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

(۳۰) بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ الصَّلُوةُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۳۴) بِسْمِ اللَّهِ التَّحْيَاتُ لِلَّهِ الصَّلَاوَةُ لِلَّهِ
الرَّازِيَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّلِحِيْنَ . شَهَدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَدْتُ
أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ساری عبادات قولیہ اللہ کیلئے ہیں ساری عباداتِ بدینیہ اللہ کے لئے ہیں ساری پاکیزہ عباداتِ اللہ کیلئے ہیں سلام ہونبی پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو، تم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں نے اس بات کی گواہی دی کہ بلاشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے گواہی دی کہ بلاشک سیدنا محمد اللہ کے رسول ہیں۔“

(۳۵) التَّحْيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَاوَةُ الرَّازِيَاتُ
لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
إِيَّاهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ .

”ساری عبادات قولیہ عباداتِ مالیہ عباداتِ بدینیہ (اور) ساری پاکیزگیاں اللہ کے لئے ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ پیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور پیشک سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو، تم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔“

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنَّ
السَّاعَةَ اتِيَّةٌ لَأَرَيْبَ فِيهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ إِيَّاهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي .

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ ہی کی توفیق سے جو سارے ناموں میں سب سے بہتر نام ہے۔ ساری عبادات قولیہ عباداتِ مالیہ عباداتِ بدینیہ اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ کچھ کے ساتھ (فرمانبرداروں کے لئے) خوشخبری دینے والا (نافرمانوں کیلئے) ڈرائیوالا بنا کر بھیجا اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت آئیوالی ہے اسی میں کوئی شک نہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو، تم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اے اللہ میری مغفرت فرم اور مجھ کو ہدایت دے۔“

(۳۶) التَّحْيَاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَاوَةُ
وَالْمُلْكُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِيَّاهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

”ساری عبادات قولیہ عباداتِ مالیہ اور عباداتِ بدینیہ اور ملک اللہ کے لئے ہے سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔“

دُعا کیجئے

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالمِ مصلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چهل درود شریف

وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”تمام عبادات قولیہ بدنیہ مالیہ اللہ کیلئے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت ہو سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد بے شبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

(۳۹) التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ
لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ
مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

”ساری با برکت عبادات قولیہ عبادات بدنیہ، عبادات مالیہ اللہ کیلئے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شبہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا محمد اللہ کے رسول ہیں۔“

(۴۰) بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ.

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور سلام ہو اللہ کے رسول پر۔“

(۳۶) التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ
لِلَّهِ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللهِ الصَّالِحِينَ.

”ساری عبادات قولیہ مالیہ اور عبادات بدنیہ اور ساری پاکیز گیاں اللہ کے لئے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں ہوں سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔“

(۳۷) التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

”تمام عبادات قولیہ بدنیہ اللہ کے لئے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔“

(۳۸) التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ڈعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔ اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔ وَآخِرُ دُعَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مخصوص اوقات کے مخصوص درود شریف

سونے کے وقت اور سفر کے وقت اور سواری پر سوار ہونے کے وقت اور جس کو نیند کم آتی ہواں کے لئے اور بازار جانے کے وقت دعوت میں جانے کے وقت اور گھر میں داخل کرنے کے وقت اور رسالے شروع کرنے کے وقت اور اسم اللہ کے بعد او غم کے وقت بے چینی کے وقت، سختیوں کے وقت، اور فقر کی حالت میں اور ذوبنے کے موقع پر اور طاعون کے زمانہ میں اور دعاء کے اول اور آخر اور درمیان میں کان بختنے کے وقت، پاؤں سونے کے وقت، چھینک آنے کے وقت اور کسی چیز کو رکھ کر بخول جانے کے وقت اور کسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت اور مولیٰ کھانے کے وقت اور گدھے کے بولنے کے وقت اور گناہ سے توبہ کے وقت اور جب ضرورتیں پیش آؤں اور ہر حال میں اور اس شخص کے لئے جس کو کچھ تہمت لگائی گئی ہو اور وہ اس سے بری ہو اور دوستوں سے ملاقات کے وقت اور جمع کے اجتماع کے وقت اور ان کے علیحدہ ہونے کے وقت اور قرآنِ پاک کے ختم کے وقت اور قرآنِ پاک حفظ کرنے کی دعا میں اور مجلس سے اٹھنے کے وقت اور ہر اس جگہ میں جہاں اللہ کے ذکر کے لئے اجتماع کیا جاتا ہو اور ہر کلام کے افتتاح میں اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو۔ علم کی اشاعت کے وقت، حدیث پاک قرأت کے وقت، فتویٰ اور وعظ کے وقت اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے۔ علامہ سخاویؒ نے اوقات مخصوصہ کے باب میں یہ موضع ذکر کئے ہیں اور پھر ان کی تائید میں روایات اور آثار ذکر کئے ہیں۔ اختصاراً صرف موضع کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔

علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں مستقل ایک باب ان درودوں کے بارے تحریر فرمایا ہے جو اوقات مخصوصہ میں پڑھے جاتے ہیں اور اس میں یہ موضع گنوائے ہیں۔ وضوء اور تمیم سے فراغت پر اور غسلِ جنابت اور غسلِ حیض سے فراغت پر۔ نیز نماز کے اندر اور نماز سے فراغ پر اور نماز قائم ہونے کے وقت اور اس کا موکد ہونا صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور التحیات کے بعد اور قنوت میں اور تہجد کے لئے کھڑے ہونے کے وقت اور اس کے بعد اور مساجد پر گذرنے کے وقت اور مساجد کو دیکھ کر اور مساجد میں داخل ہونے کے وقت اور مساجد سے باہر آنے کے وقت اور اذان کے جواب کے بعد اور جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں اور شنبہ کو اتوار کو پیر کو منگل کو اور خطبہ میں جمعہ کے اور دونوں عیدوں کے خطبے میں اور استقاء کی نماز کے اور کسوف کے اور خسوف کے خطبوں میں اور عیدِ یمن اور جنازہ کی تکبیرات کے درمیان میں اور میت کے قبر میں داخل کرنے کے وقت اور شعبان کے مہینے میں اور کعبہ شریف پر نظر پڑنے کے وقت اور حج میں صفا مروہ پر چڑھنے کے وقت اور بلیک سے فراغت پر اور حجر اسود کے بوسہ کے وقت اور ملتزم سے چمٹنے کے وقت اور عرفہ کی شام کو اور منی کی مسجد میں اور مدینہ منورہ پر نگاہ پڑنے کے وقت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے وقت اور رخصت کے وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریفہ اور گذرگاہوں اور قیام گاہوں جیسے بدوغیرہ پر گذرنے کے وقت اور جانور کو ذبح کرنے کے وقت اور تجارت کے وقت اور وصیت کے لکھنے کے وقت نکاح کے خطبے میں دن کے اول آخر میں،

کان کے بحث کے وقت اور کسی چیز کے بخوبی جانے کے وقت، ععظ کے وقت، علوم کی اشاعت کے وقت، حدیث کی قرأت کے ابتداء میں اور انہا میں، استفتاء اور فتویٰ کی کتابت کے وقت اور ہر مصنف اور پڑھنے والے کے لئے اور خطیب کے لئے اور منع کرنے والے کے لئے، اپنا نکاح کرنے والے کے لئے، دوسرے کا نکاح کرنے والے کیلئے اور رسالوں میں اور اہم امور کے شروع کے وقت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لینے یا سُنّتے یا لکھنے کی وقت اور سات اوقات میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ ۱۔ صحبت کے وقت، ۲۔ پیشاب پاخانہ کے وقت، ۳۔ بیچنے کی چیز کی تشویہ کے لئے، ۴۔ ٹھوکر کھانے کے وقت، ۵۔ تعجب کے وقت، ۶۔ جانور کے ذبح کرنے کے وقت، ۷۔ چھینک کے وقت، اسی طرح قرآن پاک کی قرأت کے درمیان میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آئے تو درمیان میں درود شریف نہ پڑھے۔

يَارِبِ صَلِيلَ وَسَلِيمَ دَائِئِماً أَبَداً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِيمَه

کہاں کہاں درود شریف پڑھنا سنت مستحب ہے اور کہاں مکروہ و منوع ہے البتہ ایک بات قابلٰ تنبیہ یہ ہے کہ علامہ سخاوی شافعی المذہب ہیں اور یہ سب موقع شافعیہ کے یہاں مستحب ہیں، حفیہ کے نزدیک چند موقع میں مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ علامہ شامیؒ لکھتے ہیں کہ درود شریف نماز کے قعدہ اخیر میں مطلقاً اور سنتوں کے علاوہ بقیہ نوافل کے قعدہ اولیٰ میں بھی اور نماز جنازہ میں بھی سنت ہے اور جن اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہو پڑھنا مستحب ہے بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو اور علماء نے تصریح کی ہے اس کے استحباب کی جمعہ کے دن میں اور اس کی رات میں اور شبہ کو اتوار کو جمعرات کو اور صبح، شام اور مسجد کے داخل ہونے میں اور نکلنے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطہ کی زیارت کے وقت اور صفا مروہ پر جمعہ وغیرہ کے خطبہ میں، اذان کے جواب کے بعد اور تکبیر کے وقت اور دعا مانگنے کے شروع میں، نیچ میں اور اخیر میں اور دعاء قنوت کے بعد اور لبیک سے فراغت کے بعد اور اجتماع اور افتراق کے وقت، وضو کے وقت،

دُعا یکجھے

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجھے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! آپ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجھے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قصیدہ بہاریہ سے چند اشعار

قصائد قاسمی میں سے حضرت اقدس جنتۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم کے مشہور قصیدہ بہاریہ میں سے چند اشعار پیش خدمت ہیں (جو صاحب پورا دیکھنا چاہیں اصل قصیدہ کو ملاحظہ فرمائیں) ان سے حضرت نانو توی قدس سرہ کی والہانہ محبت اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہوتا ہے۔

کہ آئی ہے نئے سر سے چمن چمن میں بہار
کسی کو بُرگ، کسی کو گل اور کسی کو بار
کفِ ورق سے بجاتے ہیں تالیاں اشجار
کرم میں آپ کو دُشمن سے بھی نہیں انکار
کبھی رہے تھا سدا جنکے دل کے پنج غبار
بانا ہے خاص تجلی کا مطلع انوار
کیا ظہور در قہائے سبزہ میں ناچار
مقامِ یار کو کب پہنچے مسکن یار
یہ سب کاربار اٹھائے وہ سب کے سر پر بار
فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار
زمیں پہ جلوہ نما ہیں محمد مختار
زمیں پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار
کہاں کا سبزہ، کہاں کا چمن، کہاں کی بہار
کہ جس پہ ایسا تری ذاتِ خاص کا ہو پیار
نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زہار
کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ زار
زبان کامنہ نہیں جو مدح میں کرے گفتار
گلی ہے جان جو پہنچیں وہاں میرے افکار
تو اس کی مدح میں میں بھی کروں رقم اشعار
تو آگے بڑھ کے کہوں اے جہاں کے سردار
امیر لشکر پیغمبران، شہ ابراز
تو نور شمش گر اور انبیاء ہیں شمس و نہار

نهودے نغمہ سرائیں طرح سے بُلبل زار
ہر ایک کو حبِ لیاقت بہار دیتی ہے
خوشی سے مُرغِ چمن ناج ناج گاتے ہیں
بجھائی ہے دل آتش کی بھی طیش یار ب
یہ قدر خاک ہے ہیں باغ باغ وہ عاشق
یہ سبزہ زار کا رتبہ ہے شجرہ موسیٰ[ؐ]
اسی لئے چمنتاں میں رنگ ہندی ہے
پہنچ سکے شجر طور کو کہیں طوبے
زمین و خرچ میں ہو کیوں نہ فرق چرخ وزمین
کرے ہے ذرہ کوئے محمدی سے جمل
فلک پہ عیسیٰ[ؐ] و ادريس[ؐ] ہیں تو تو خیر سہی
فلک پہ سب سہی پر ہے نہ ثانی احمد
شنا کر اس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ
الہی کس سے بیاں ہو سکے شنا اس کی
جو تو اُسے نہ بناتا تو سارے عالم کو
کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نار سا اپنی
چراغ عقل ہے کل اس کے نور کے آگے
جہاں کہ جلتے ہوں پر عقلِ گل کے بھی پھر کیا
مگر کرے مری روح القدس مددگاری
جو جبریل[ؐ] مدد پر ہو فکر کی میرے
تو فخر کون و مکان، زبدہ زمین و زمان
تو بوئے گل ہے اگر مثلِ گل ہیں اور نبی

مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کا واقعہ

ایک مرتبہ آپ حج کیلئے تشریف لے جانے لگے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اپنی نعمتیہ نظم کو پڑھیں گے جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو (جامی کو) مدینہ نہ آنے دیں، امیر مکہ نے ممانعت کر دی مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آرہا ہے اس کو یہاں نہ آنے دو، امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستہ سے پکڑوا کر بلایا، ان پرختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا، اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کیلئے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا، اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا۔

آپ کی نعمتیہ نظم بمعہ ترجمہ حاضر خدمت ہے پڑھئے اور لطف اٹھائیے

مثنوی مولانا جامی رحمہ اللہ

زمبوری	برآمد	جان	عالم	ترجم	یا	نبی	اللہ	ترجم
--------	-------	-----	------	------	----	-----	------	------

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے اے رسول خدا نگاہِ کرم فرمائیں اے ختم المرسلین رحم فرمائیے۔“

نہ آخر	رحمۃ	للعلمین	زمروں مان	چرا	غافل	نشینی
--------	------	---------	-----------	-----	------	-------

”آپ یقیناً رحمۃ للعلمین ہیں ہم حرمائیں نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرماسکتے ہیں۔“

زخاک	اے	لالہ	سیراب	برخیز	چونزگس	خواب	چند از خواب	برخیز
------	----	------	-------	-------	--------	------	-------------	-------

”اے لالہ خوش رنگ اپنی شادابی و سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے اور خواب زرگسیں سے بیدار ہو کر ہم محتاجِ ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے۔“ اے بسرا پر دیش بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

بروں آور سراز بُرُدِ یمانی کہ روئے تست صحیح زندگانی

”اپنے سر مبارک کو یعنی چادر و کے کفن سے باہر نکالنے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور صحیح زندگانی ہے۔“

شب اندوہ مارا روزگردان زرویت روز ما فیروز گردان

”ہماری غمناک رات کو دن بنادیجھئے اور اپنے جمال جہاں آراء سے ہمارے دن کو فیروز مندی و کامیابی عطا کر دیجھئے۔“

بہ تن در پوش عنبر بوئے جامہ بسر بر بند کافوری عمامة

”جسم اطہر پر حسب عادت عنبر بیز لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کافوری عمامة زیب سرفرمائیے۔“

فرود آویز از سرگیسوال را فلن سایه بپاسرو روائ را

”اپنی عنبر بار و مشکیں زلفوں کو سر مبارک سے لٹکا دیجھئے تاکہ ان کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے با برکت قدموں پر پڑے (کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر و جسم انور کا سایہ نہ تھا لہذا گیسوئے شکوں کا سایہ ڈالنے)“

اویم طائف نعلین پاگن شراك از رشته جا نهائے ما گن

”حسب دستور طائف کے مشہور چمڑے کے مبارک نعلین (پاپوش) پہنئے اور ان کے تمسی اور پیش ہمارے رشته جا سے بنائیں“

چو فرش اقبال باوس تو خواہند

”تمام عالم اپنے دیدہ و دل کو فرش را کئے ہوئے اور بچھائے ہوئے ہے اور فرش زمیں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے۔“

ز مجرہ پائے در صحن حرم نہ بفرق خاکِ رہ بوسان قدم نہ

” مجرہ شریف یعنی گنبدِ خضراء سے باہر آ کر صحنِ حرم میں تشریف رکھئے راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سر پر قدم رکھئے۔“

بدہ دستی ز پا افتادگاں را بکن دلداریئے دل دادگاں را

”عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عاشاق کی دل جوئی و دلداری کیجھئے۔“

اگرچہ غرق دریائے گناہم فادہ خشک لب برخاک را ہم

”اگرچہ ہم گناہوں کے دریا میں از سرتاپ غرق ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ مبارک پر تشنہ و خشک لب پڑے ہیں۔“

تو ابر رحمتی آں بہ کہ گا ہے

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت ہیں شایانِ شانِ گرامی ہے کہ پیاسوں اور تشنے لبوں پر ایک نگاہِ کرم بارڈالی جائے۔“

خوشائز گر درہ سویت رسیدیم بدیدہ گرداز کویت کشیدیم

”ہمارے لئے کیسا اچھا وقت ہوتا کہ ہم گر دراہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ گرامی میں پہنچ جاتے اور آنکھوں میں آپ کے کوچہ مبارک کی خاک کا سرمه لگاتے۔

وہ دین خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم خاکِ در رسول کا سرمه لگائیں ہم

بمسجد سجدہ شکرانہ کردیم چراغت را ز جاں پروانہ کردیم

”مسجدِ نبوی میں دو گانہ شکرا دا کرتے، سجدہ شکر بجالاتے روضہ اقدس کی شمعِ روشن کا اپنی جانِ حزیں کو پروانہ بناتے۔“

بگرد روپہ ات گشتیم گستاخ دلم چوں پنجھرہ سوراخ سوراخ

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپہ اطہر اور گنبدِ حضرا کے اس حال میں مستانہ اور بیتا بانہ چکر لگاتے کہ دل صد مہاۓ عشق اور دفورِ شوق سے پاش پاش اور چھلنی ہوتا۔“

زویم از اشک ابِ چشم بے خواب حریم آستاں روپہ ات آب

حریم قدس اور روپہ پُر نور کے آستانہ محترم پر اپنی بے خواب آنکھوں کے بادلوں سے آنسو بر ساتے اور چھڑ کاؤ کرتے۔“

گہے رفیتم زاں ساحت غبارے گہے چیدیم زو خاشاک و خارے

”کبھی صحنِ حرم میں جھاڑ و دیکر گرد و غبار کو صاف کرنیکا فخر اور کبھی وہاں کے خس و خاشاک کو دُور کرنیکی سعادت حاصل کرتے۔“

ازاں نویر سواد دیدہ دادیم وزیں بر لیش دل مرہم نہادیم

”گوگرد و غبار سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے مگر ہم اس سے مرد مک چشم کیلئے سامانِ روشنی مہیا کرتے اور گو خس و خاشاک زخموں کیلئے مضر ہے مگر ہم اس کو جراحتِ دل کیلئے مرہم بناتے۔“

بسوئے منبرت رہ بر گر فتیم ز چھرہ پایہ اش در زرگر فیتم

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس جاتے اور اس کے پائے مبارک کو اپنے عاشقانہ زرد چھرہ سے

مَلْ مَلْ كَرْ زَرِيسْ وَ طَلَائِي بَنَاتَهُ

زمحرا بت بسجه کام جستیم قدم گاہت بخون دیده شتیم

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلاے مبارک و محراب شریف میں نماز پڑھ کر تمنا میں پوری کرتے اور حقيقة مقاصد میں کامیاب ہوتے اور جس مصلے میں جس جائے مقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے اس کوشوق کے اشک خونیں سے دھوتے۔“

بپائے هرستون قد راست کردیم مقام راستا در خواست کردیم

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اطہر کے ہرستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور صدقیقین کے مرتبہ کی درخواست کرے۔“

زاداغ آرزویت باول خوش زدیم از دل بہر قندیل آتش

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آویز تمناؤں کے زخموں اور لنشیں آرزوؤں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں) انتہائی سرگرمی کے ساتھ ہر قندیل کو روشن کرتے۔“

کنوں گرت نہ خاک آس حریم ست بحمد اللہ کہ جاں آں جا مقیم ست

”اب اگر چہ میرا جسم اس حریم انور و شبستان اطہر میں نہیں ہے لیکن خدا کالا کھلا کھشکر ہے کہ روح وہیں ہے۔“

بخود در مانده ام از نفس خود رائے ببیں در مانده چندیں به بخشانے

”میں اپنے خوبیوں و خود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز آپ کا ہوں ایسے عاجزوں کی جانب التفات فرمائیں اور بخشش کی نظر ڈالیے۔“

اگر نہ بود چو لطف دست یارے زدست ما نیاید بیچ کارے

”اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الطافِ کریمانہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو ہم عضو معطل و مغلوق ہو جائیں گے اور ہم سے کوئی کام انجام نہ پاسکے گا۔“

قضا می افگنند از راه مارا خدارا از خدا در خواه مارا

”ہماری بد بختی ہمیں صراط مستقیم و راہِ خدا سے بھٹکا رہی ہے خدارا ہمارے لئے خداوند قدوس سے دعا فرمائیے۔“

کہ بخشد از یقین اول حیاتے دهد آنگہ بکار دیں ثباتے

”(یہ دعاء فرمائیے) کہ خداوند قدوس اولاً ہم کو پختہ یقین اور کامل اعتقاد کی عظیم الشان زندگی بخشے اور پھر احکام دین میں مکمل استقلال اور پوری ثابت قدمی عطا فرمائے۔“

چو ہول روز رُستا خیز خیزد باش آبروئے ما نه ریزد

”جب قیامت کی حشر خیزیاں اور اس کی زبردست ہولناکیاں پیش آئیں تو مالک یوم الدین رحمٰن و رحیم ہم کو دوزخ سے بچا کر ہماری عزت بچائے۔“

کند با ایں ہمہ گمراہی ما ترا اذن شفاعت خواہی ما

”اور ہماری غلط روی اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کیلئے اجازت مرحمت فرمائیے کیونکہ بغیر اس کی اجازت شفاعت نہیں ہو سکتی ہے۔“

چو چو گاں سرفلنده آوری روئے بمیدان شفاعت امتی گوے

”ہمارے گناہوں کی شرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخمیدہ چوگاں کی طرح میدان شفاعت میں سرجھا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یارب امتی فرماتے ہوئے تشریف لائیں۔“

حسن اہتمامت کارِ جامی طفیلِ دیگران یابد تمامی

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اہتمام اور سعیِ جمیل سے دوسرے مقبول بندگانِ خدا کے صدقہ میں غریبِ جامی کا بھی کام بن جائے گا۔

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ ایسی محبت جو ہمیں اتباع سنت کی بے غبار راہ پر لے چلے۔

اے اللہ! آپ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جن فضائل و انعامات سے نوازا ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

وَأَخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چاہیں درود شریف

گذشتہ صفحات میں درود شریف کے فضائل و برکات آپ تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر چکے ہیں درج ذیل حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی مدظلہ العالی کے مرتب و مترجم کردہ درود شریف کے وہ خاص کلمات دیئے جاتے ہیں جو دنیا و آخرت کے جملہ مصائب کے حل کیلئے مجبوب ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے کے وقت سامعین بھی ان کے الفاظ دھرا لیں تو ثواب بھی حاصل ہوگا اور تلفظ کی درستگی بھی ہو جائیگی۔

دوزخ سے نجات

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَعَلَى أَلِّي وَسَلِّمٍ**

حضرت خدا و رحمۃ اللہ علیہ جمع کے دن یہ درود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کے بھکری کے نیچے سے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خلاد بن کثیر کے لئے دوزخ سے آزادی کا پرداز ہے۔ (۱۸۲)

مسجد میں آنے اور جانے پر درود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں جاتے یا مسجد سے نکلتے تو یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ (ص ۵۵)

مکمل درود شریف

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى أَلِّي مُحَمَّدٍ**

حضور اکرم ﷺ نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا تم ناکمل درود شریف نہ پڑھا کر دو پھر صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ نے نہ کہا درود شریف تعلیم فرمایا۔ (ص ۳۲)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَأَنْزِلْهُ الْمُقَدَّمَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا، اس کے لئے حضور کی شفاعت واجب ہوگی۔ (ص ۲۹)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَرَحْمَةً مُحَمَّدٍ
فِي الْأَزْوَاجِ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ
وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ**

جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا اس کو خواب میں حضور کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت ہوگی۔ (ص ۲۷)

روزی میں برکت

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ**

جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کا مال ہو جائے وہ مذکورہ درود شریف پڑھا کرے۔ (زادہ اسمعیل)

جنت میں ٹھکانہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے والے کو مر نے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھادیا جائے گا۔ (ص ۸۲)

آئی سال کی عبادت کا ثواب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى أَلِيٍّ وَسَلِّمٍ تَسْلِيمًا

جمعہ کے دن جہاں نمازِ عصر پڑھی ہو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے سے آئی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آئی سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ (فضائل درود)

پریشانیاں دُور ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الرَّزِّيِّ صَلَاةً تُحَلِّ

بِهِ الْعَقْدُ وَتُفَلَّ بِهَا الْكُرْبَ

یہ درود شریف بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانی دو فرمادیتے ہیں۔ (ص ۱۱۳)

مغفرت کا ذریعہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

امام اسماعیل بن ابراہیم مرزا نے حضرت امام شافعیؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تھا پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاشرہ فرمایا تو انہوں نے جواب دیا اس درود شریف کی برکت سے الشباک نے مجھے بخش دیا اور عزت و احترام سے جنت میں لے جانے کا حکم دیا۔ (زاد العسید)

ایمان کی حفاظت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ

جو شخص پچاس مرتبہ دن میں اور پچاس مرتبہ رات میں اس درود شریف کا وردہ رکھنے تو اس کا ایمان جانے سے محفوظ ہو گا۔ (ص ۱۵۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَا وَلِحَقِّهِ أَدَاءً

جو شخص نمازِ فجر اور نمازِ مغرب کے بعد ۳۲-۳۳ بار یہ درود شریف پڑھ کر تو اس شخص کی قبر کے اور روضۃ القدس کے درمیان ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور روضۃ القدس کی راحت اس کو نصیب ہو گی۔ (ص ۱۵۲)

ثواب میں سب سے زیادہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ

یہ درود شریف پڑھنے میں چھوٹا اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے جو شخص روزانہ پانچ سو مرتبہ اس کو پڑھتے تو کبھی محتاج نہ ہو گا۔ (ص ۱۵۲)

ہر درود کی دوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بَعْدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَاءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ہر درود اور بیماری دور ہونے کے لئے اول و آخر مذکورہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں مع بسم اللہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ (ص ۱۶۰)

تمام درودوں کے برابر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

يَعَدَ دُكْلٌ ذِكْرُهُ الْفَالْفَ مَرَّةٌ

یہ درود شریف پڑھنا حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر سارے
درود بھیجنے کے برابر ہے۔ (ص ۱۹۰)

عرشِ عظیم کے برابر ثواب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَلَّا السَّمَاوَاتِ وَمَلَّا الْأَرْضَ وَمَلَّا الْعَرْشَ الْعَظِيمِ

اس درود شریف کے پڑھنے والے کو آسمان و زمین بھر کر اور
عرشِ عظیم کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (ص ۱۸۲)

دنیا و آخرت کی برکات کا حصول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَلَيْلِ نَاجِدِ

وَالْهَ وَصَحِّيْهِ وَسَلِّمْ يَعَدَ مَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ

حَرْفًا حَرْفًا وَيَعَدَ دُكْلٌ حَرْفِ الْفَالْفَ الْفَالْفَ

دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے اپنے خطائف و معمولات
کے ختم پر یہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ (ص ۱۹۲)

چاند کی طرح چہرہ ہونا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى

مِنْ صَلَوَاتِكَ شَيْءٌ وَبَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

بَرَّكَاتِكَ شَيْءٌ وَارْحَمْ الْيَقِّ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ رَحْمَاتِكَ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَى

النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس درود شریف کے پڑھنے والے
کا چہرہ پلی صراط سے گزرتے وقت چاند سے زیادہ پکندار ہوگا۔ (ص ۱۷۵)

قرض کی ادائیگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ظہری نماز کے بعد یہ درود شریف سو مرتبہ پڑھنے والے کو تین باتیں حاصل ہوں گی۔
۱۔ کبھی مترقب نہ ہوگا۔

۲۔ اگر قرض ہوگا تو وادا ہو جائے گا خواہ جتنا بھی قرض ہو۔

۳۔ قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ (ص ۱۹۲)

درود باعثِ زیارت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْإِمَامِ وَسَلِّمْ

جو شخص جمع کے دن ایک ہزار مرتب یہ درود شریف پڑھنے والے کو خواب میں رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم
کی زیارت ہوگی۔ پانچ یا سات جمع تک پابندی سے اسکو پریس۔ (ص ۱۹۲)

جنت کے پھل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عَبْدِكَ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

جو شخص روزانہ اس درود شریف کی پابندی کرے وہ جنت کے
خاص پھل اور میوے کھائے گا۔ (ص ۱۷۳)

ہزار دن تک ثواب ملا

صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَجَزَاهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

جو شخص یہ درود شریف پڑھنے تو ثواب لکھنے والے ستر فرستے ایک ہزار
دن تک اس کا ثواب لکھیں گے۔ (ص ۱۷۴)

مغفرت کا ذریعہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

جو شخص چیخنک آئے پر یہ درود شریف پڑھتے گا تو منجائب اللہ ایک پرندہ پیدا ہو گا جو عرش کے پیچے پہنچائے گا اور عرض کرے گا کہ اس درود شریف کے پڑھنے والے کو بخش دیجئے۔ (ص ۵۸)

تا بعین کا درود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَ عَلَى أَبِيهِنَا إِبْرَاهِيمَ

حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا میں نے ستر سال سے زیادہ حضرات تابعین کو دور ان طواف یہ درود شریف پڑھتے ہوئے سنائے۔ (ص ۱۰۰)

دُشواری دُور ہونا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ مُسْتَحِقُهُ

جو شخص کو کوئی دُشواری لاحق ہو اور دُجہائی میں باضوبط درود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھے اور ایک ہزار مرتبہ کلہ طیبہ پڑھ کر دل سے دعا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ دُشواری دُور ہوگی۔ (ص ۵۹)

دُس ہزار مرتبہ کے برابر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

أَفْضَلَ صَلَواتِكَ

اس درود شریف کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دُس ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ (ص ۱۵۰)

کامل درود

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَمَا أَمْرَتَنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَصَلِّ
عَلَيْهِ كَمَا يَتَبَغِي أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

حضرت انس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا درود شریف دریافت کیا جس کو کامل درود شریف کہا جا سکے تو آپ نے درود بالاتفاق فرمایا۔ (ص ۳۲)

قرب خاص کا ذریعہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَمَا تُحِبُ وَ تَرَضِي لَهُ

رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک روز ایک شخص کو اپنے اور حضرت مددین اکبر کے درمیان بٹھایا، صحابہ کو اس پر تجوب ہوا تو آپ نے فرمایا شخص مجھ پر مذکور درود شریف پڑھتا ہے۔ (ص ۵۰)

دُعا قبول ہونا

اللَّهُمَّ إِنَّا هُنَّا لِلَّهِ عَوْلاً الْمُقْلَبُ

وَالصَّلُوةُ الْقَائِمَةٌ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ

عَنْهُ رِضَى لَا سَخَطَ بَعْدَهُ

جو شخص اذان کے وقت یہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول فرمائیں گے۔ (ص ۵۲)

دُعاِ قنوت کے بعد درود شریف

وَصَلِّ عَلَى اللَّهِ عَزَّلَهُ الْمُبَتَّلُ

مُحَمَّدٍ وَسَلِّمَ

حضرت حسن دُعاِ قنوت کے بعد مذکورہ الفاظ سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ (ص ۵۵)

بڑے پیانہ سے ثواب ملتا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

وَأَزْوَاجِهِ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

حضور اکرم مسیل الشطیہ آللہ علیم کے ارشاد کے مطابق جو شخص چاہے کہ بڑے پیانے کے
سامنے اس کو ثواب دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ درود شریف پڑھے۔ (ص ۲۶)

صدقہ کے قائم مقام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

حضور اکرم مسیل الشطیہ آللہ علیم کے ارشاد کے مطابق جس شخص کے پاس صدقہ دینے کے
لئے کوئی چیز نہ ہو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے یا اس کے لئے زکوٰۃ کے قائم مقام ہے۔

بڑا جام کوڑا عطا ہونا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى الَّهِ وَاصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
وَاصْهَارِهِ وَأَنصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِيطِهِ وَأَمْتِهِ وَعَلَيْنَا مَعْهُمْ
أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

جو شخص رسول کریم مسیل الشطیہ آللہ علیم کے جو شخص کہہ سے بڑے پیانہ کے ساتھ پانی نوش کرے،
اس کو چاہیے کہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔ (ص ۹۶)

حضور کی زیارت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

كَمَا أَمْرَتَنَا أَن نُصْلِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا
مَوَاهِلَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا شِئْتَ وَتَرَضَى لَهُ

جو شخص خوب میں آنحضرت مسیل الشطیہ آللہ علیم کی زیارت کرنا چاہتا ہو
تو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔ (ص ۱۰۶)

ایک ہزار دن تک ثواب

صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَجَرَاهُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

جو شخص یہ درود شریف پڑھے تو ایک ہزار دن تک ستر فرستے اس کا
ثواب لکھتے رہیں گے۔ (ص ۲۷)

اُسی سال کے گناہ معاف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ

حضور اکرم مسیل الشطیہ آللہ علیم کے ارشاد کے مطابق جو شخص اسی مرتبہ یہ درود شریف
پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اُسی ۸۰ سال کے گناہ معاف فرمادیں گے۔ (ص ۱۲۶)

اولاد کو عزت ملتا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْعَمَلَيْنَ

**حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَالْهَصْلُوَةَ أَنْتَ لَهَا
أَهْلُ وَبَرَكَ وَسَلَمَ كَذَلِكَ**

جو شخص صبح شام سات مرتبہ اس درود شریف کو پابندی سے پڑھے گا تو اس کی برکت سے
اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو عزت رکھے گا۔ (ص ۱۴۸)

جنت میں اپنا مقام دیکھنا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَالْأَلْفَ الْأَلْفَ مَرَّةً

جو شخص جمع کے دن ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو وہ اس وقت تک نہ مرے
گا جب تک وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان نہ دیکھے۔ (ص ۶۰)

ستر ہزار فرشتوں کا استغفار

جَنَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنِّي مَحْمَدًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ (بخاری)

جو شخص یہ کہا کرے تو اسکے لئے ستر ہزار فرشتے ایک ہزار دن تک
استغفار کرتے رہیں گے۔ (ص ۸۰)

حسن خاتمہ کی بشارت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَأَنْزِلْهُ الْمُقْعَدَ الْمُقْرَبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس درود شریف کے پڑھنے والے کیلئے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و ایوب ہوگی جس میں اس کے حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ (ص ۱۹۲)

افضل درود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَلَّيْلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنَ

الَّذِي مَلَّتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنَيْهِ مِنْ جَمَالِكَ

فَأَصْبِحَ فَرِحَّاً مَسْرُورًا مُؤْتَدِّا مَنْصُورًا

شیخ ابو عبد الله بن نعیانؑ کا فواب میں ہر چہار دن کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت ہوتی۔ آخری مرتبہ
میں انہوں نے حضور افضل درود شریف دریافت کیا تو آپؐ نے یہ درود شریف تعلیم فرمایا۔ (ص ۱۹۳)

تمام اوقات میں درود

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي أَوْسَطِ كَلَامِنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي آخِرِ كَلَامِنَا

شیخ الاسلام ابو العباسؓ نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں تمین ہر چہار دن درود شریف
پڑھے وہ دو یا دن و رات کے تمام اوقات میں درود بھیجا رہا۔ (ص ۱۹۴)

دُعا کیجئے

اے اللہ! ہمیں درود شریف بکثرت پڑھنے اور اس کے انعامات و فضائل سے مالا مال فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات حل فرمادیجئے۔

اے اللہ! اپنے محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ سے جو محبت تھی ہمیں بھی اس محبت کا ذرہ نصیب فرمائیے۔

اے اللہ! آپؐ نے جن خوش نصیب حضرات کو درود شریف کی برکات سے نوازا ہے ہمیں بھی حض اپنے فضل
و کرم سے ان حضرات میں شامل فرمادیجئے۔

اے اللہ! روز محرث ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاعت نصیب فرمائیے اور ایسے محسن عظیم کے
حقوق و آداب بجا لئے کی توفیق عطا فرمائیے۔

اے اللہ! درود شریف کے انوار و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل و مشکلات حل فرمادیجئے۔

وَآخِرُ دُعَوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی کو دیکھا۔ جس نے یہاں مجھے خواب میں دیکھا۔ وہ قیامت میں ضرور مجھے دیکھے گا۔ اور میں قیامت میں دیکھنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اور جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اور حوض کوثر سے پانی پینے والے پر آتش دوزخ حرام ہے۔ (حدیث)

وضاحت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں اضافہ کیلئے اسلاف کے وہ ایمان افروز خواب درج کئے جاتے ہیں جو ہمارے ایمان و محبت میں اضافہ کا باعث ہیں۔ یہ خواب بشارت یعنی خوشخبری کے درجہ میں ہیں اور ایک مسلمان کیلئے عظیم سعادت ہیں لیکن شریعت کا مدار احکام پر ہے خوابوں پر نہیں۔

نے ارشاد فرمایا کہ ”آپ میرے پاس مدینہ تشریف لے آئیے“۔
حضرت مولانا دوسرے ہی دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

حضرت قاری محمد طیب صاحب کے والد ماجد کا خواب

قاری صاحب فرماتے ہیں میرے والد حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر کی سے بیعت تھے۔ اور حضرت مولانا شید احمد گنگوہی کے خلیفہ تھے۔ حضرت حاجی صاحب میلان شریف، گیارہویں شریف اور دیگر مسائل میں زم رویہ اختیار کئے ہوئے تھے کیونکہ وہ وسیع المشرب تھے جبکہ والد ماجد ایک عالم کی حیثیت سے ہر مسئلہ میں خالص شرعی احکامات بیان فرماتے تھے۔ والد صاحب نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا دیوان خانہ ہے مندرجہ حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان ہی مسائل پر ان سے بحث کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کے نظریات ان کے رسائل فیصلہ فہت مسئلہ میں موجود ہیں جبکہ میں ان مسائل کی بابت وہی بات کہتا ہوں جو عین شرع کے مطابق ہے۔ اس پر حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے۔ دیوان خانہ کے سامنے ایک لمبی سڑک ہے۔ حاجی صاحب کے ارشاد کے فوراً بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

مدرسہ دارالعلوم دیوبند ایک الہامی مدرسہ ہے
۱۵ محرم ۱۴۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۱ء کو اس ادارے کا آغاز کیا گیا۔ زمین مل جانے کے بعد عمارت مدرسہ کے لیے بنیاد رکھ دی گئی۔ جب وقت آیا کہ اسے بھرا جائے اور اس پر عمارت تعمیر کی جائے تو مولانا رفیع الدین مہتمم ثانی دارالعلوم دیوبند نے خواب دیکھا کہ اس زمین پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ ہاتھ میں عصا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا سے فرمایا۔ ”شمائل جانب جو بنیاد کھودی گئی ہے اس سے صحن مدرسہ چھوٹا اور تنگ رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصائے مبارک سے دس بیس گز شمال کی جانب ہٹ کر نشان لگایا کہ بنیاد یہاں ہونی چاہئے۔ تا کہ مدرسہ کا صحن وسیع رہے۔ (جہاں تک اب صحن کی لمبائی ہے) خواب دیکھنے کے بعد مولانا علی اصغر بنیادوں کے معاینہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا نشان بدستور موجود تھا اسی نشان پر بنیاد کھدوائی اور مدرسے کی تعمیر شروع ہو گئی۔

مدینہ تشریف لے آئیے

حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری ثم مدنی کو حضرت نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کافر تھا۔ پس وہ مجد دیکونکر ہو سکتا ہے۔ اسی زمانہ میں میں نے خواب دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی گلی ہے جس کے آخر میں اندر ہیرا ہے۔ وہیں گلی کے دونوں جانب دروازے ہیں جہاں چاندنی چٹکی ہوئی ہے۔ گلی کی انتہا پر ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اندر ہیرے میں اس تخت پر حکیم نور الدین (خلیفہ اول مرزا غلام احمد قادریانی) بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک نوجوان برابر کھڑا قادریانیوں کی تعریف کر رہا ہے تو اسی وقت ایک دروازے میں سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر غصہ کے آثار ہو یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال اور نہایت سختی کے ساتھ فرمایا۔ ”میری ساری امیدوں پر اس نے پانی پھیر دیا ہے میری توقعات ختم کر دیں۔ اس کی قبر دیکھ لو“ (مرا در مرزا غلام احمد قادریانی کی قبر ہے) آخری فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غصہ سے فرمایا کہ وہاں کی ہر چیز اڑ گئی۔ نہ تخت رہا، نہ نور الدین نہ نوجوان۔

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کر لیا تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا آئے میں نے اس کھڑکی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عثمان! تمہیں ان لوگوں نے محصور کر رکھا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا۔ جس میں سے میں نے پانی پیا۔ اس پانی کی ٹھنڈک اب تک میرے دونوں شانوں اور چھاتیوں کے درمیان محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے اور تمہارا دل چاہے تو یہاں ہمارے پاس آ کر افطار کرو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

سرک پر تشریف لاتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عصا ہے بدن پر ممل کا کرتہ ہے۔ جس میں سے جسم مبارک جھلک رہا ہے۔ سر مبارک پر پانچ گلی کی ٹوپی ہے اور چہرہ انور بالکل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب تشریف لا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ”یہ لڑکا جو کچھ کہتا ہے وہی درست ہے۔“ حاجی صاحب جو چوکھت پر ایک طرف کھڑے ہیں یہ سن کرسات مرتبہ فرماتے ہیں۔ بجا اور درست ہے۔ بجا اور درست ہے۔ ”اور ہر بار سراور بدن کو بالکل جھکایتے ہیں“ میں یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ کچھ جراءت پیدا ہوتی ہے۔ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب احادیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کچھ اور ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اصل حلیہ تو وہی ہے مگر چونکہ مولانا رشید احمد گنگوہی تمہارے شیخ ہیں اس لیے میں نے تمہارے شیخ کی صورت اختیار کی۔ تا کہ تم قربت اور موانت محسوس کرو۔ یہ خواب تین چار منٹ جاری رہا۔

صحح والد ماجد نے یہ خواب تحریر کر کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت گنگوہی نے جب یہ خواب پڑھا تو ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اگر فقہاء کفن میں کسی چیز کے رکھنے کو منع نہ فرماتے تو میں وصیت کرتا کہ میرے کفن کے ساتھ اس خط کو شامل کر دیا جائے۔

قادیانیوں کی مذمت

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی نے فرمایا کہ میں مذذب تھا اور سوچتا تھا کہ قادیانیوں کی لاہوری پارٹی کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے البتہ ان کو فاسق سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں صرف مجدد مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادریانی خود مدعا نبوت تھا۔ اور اس وجہ سے

اصفہان اسود کے باشندے تھے۔ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔ عمر بہت دراز پائی۔ تقریباً تابعین سے قرآن مجید حاصل کیا۔ جب آپ پڑھاتے تو منہ سے خوبصورتی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ خوبصورتی استعمال کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے خوبصورتی استعمال نہیں کی۔ البتہ بحالت خواب ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے قریب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بس اسی وقت سے یہ خوبصورتی پاتا ہوں۔ معتبر نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ تم دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت میں امام بنو گے۔

حضرت خواجہ فضیل بن عیاض:

حضرت خواجہ فضیل بن عیاض وضو کے وقت دوبار ہاتھ دھونا بھول گئے اور نماز اسی طرح ادا کر لی اسی رات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے فضیل بن عیاض تعجب کی بات ہے کہ وضو میں تم سے غلطی ہوئی“، حضرت خواجہ ڈر کے مارے نیند سے بیدار ہو گئے اور از سر نوتازہ وضو کیا اور اس جرم کے کفارہ میں پانچ سورکعت نماز ایک برس تک اپنے اوپر لازم کر لی۔

نہر ز بیدہ:

خلیفہ ہارون رشید اور اس کی اہلیہ نے یہ خواب دیکھا کہ وہ میدان قیامت میں کھڑے ہیں اور ہر شخص حساب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بہشت میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن ان کی نسبت حضرت بنی امی دقيقہ دان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ پیش نہ کئے جائیں۔ کیونکہ مجھے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت شرمندہ

خدمت میں حاضری چاہتا ہوں۔ اسی دن شہید کردیئے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ۳۵ ہجری کا واقعہ ہے۔ (الحاوی)

آنکھ کھلی تو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رض نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آگیا۔ باغی ابھی مجھے شہید کر دا لیں گے۔ اہلیہ محترمہ نے نہایت درود مندانہ ہجہ میں فرمایا امیر المؤمنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رض نے فرمایا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے۔ جب بستر سے اٹھے تو آپ نے وہ پاجامہ طلب فرمایا جس کو پہلے کبھی نہ پہننا تھا۔ اسے زیب تن فرمایا۔ پھر بیس غلام آزاد کر کے کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ باغی دیوار پھاند کر محل سرا میں داخل ہو گئے۔ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس خون نا حق نے جس آیت شریفہ کو نکلیں بنایا وہ تھی۔ **فَسَيِّكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** (خدا کی ذات تم کو کافی ہے وہ سنبھالا اور جانے والا ہے) جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت ہوئی۔ **إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

حضرت عامر رضی اللہ عنہ

تمہارے لیے دعا کرتے ہیں

حضرت عامر بن عبد اللہ رض کے متعلق ایک شخص کا خواب لائق ذکر ہے۔ جس سے آپ کے روحانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے سعید جرزی رض کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو حضرت بنی بحر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ میرے واسطے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے عامر دعا کر رہے ہیں۔ اس شخص نے حضرت عامر رض سے یہ خواب بیان کیا یہ لطف و کرم سن کر آپ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ (تابعین از شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی ص ۲۳۶-۲۳۷)

حضرت نافع کے منہ سے خوبصورتی

حضرت نافع بن ابی نعیم مولی جعونہ کی کنیت ابو ردمیم تھی۔

حضرت محمد رسول اللہ سا نئفت آسماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نام بھی ہوا۔

امام بخاری کا مقام:

حضرت امام بخاریؓ خود بیان فرماتے ہیں کہ ”صحیح بخاری“ کی تدوین کا محرك ایک خواب ہوا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور میں پنچھے سے ہوا کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے قریب جانے والی مکھیاں بھی اڑا رہا ہوں۔ صبح ایک معبر سے میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر چاہی تو اس نے کہا کہ تجھے خداوند تعالیٰ توفیق دے گا اور تو کذب و افتراء کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے گا۔ اس کے بعد میرے دل میں ”صحیح بخاری“ کی تدوین و ترتیب کا خیال پیدا ہوا اور رسولہ سال کی مدت میں اس کی تکمیل کی۔ سب سے پہلے اس کا مسودہ مسجد حرام میں بیٹھ کر لکھا۔ یہ مجموعہ ترتیب دیتے وقت ہمیشہ روزہ رکھا روایت ہے کہ ہر حدیث پر شب کو خواب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کی سند ملتی تھی۔

ہونا پڑے گا۔ میں ان کی شفاعت نہ کروں گا کیونکہ انہوں نے بیت المال کا مال اپنا سمجھ رکھا ہے اور مستحقین کو محروم کر دیا ہے یہ ہولناک خواب دیکھ کر دونوں جاگ اٹھے اسی دن بیت المال سے ہزار ہادر، هم و دینار تقسیم کیے اور ہزار ہا فلاجی کام انجام دیئے۔ نہر زبیدہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔

امام شافعیؓ کے لیے میزان کا عطیہ

حضرت امام شافعیؓ کا سلسلہ نسب ساتویں پشت پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے میزان (ترازو) نکال کر مجھ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ تیرے لیے میرا یہ عطیہ ہے۔

نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست

مبارک پھرتے ہی بینا ہو گیا

مرداح بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلانی پھروادی تھی۔ جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا۔ اور بد بودے اٹھا تھا۔ آنکھیں بہہ گئی تھیں اور بے چارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصہ بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روضہ اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا جب سوئے تو خواب میں

درس حدیث جلدے ختم ہوئی

